

خواتین کے مخصوص مسائل

(تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات باللغة الاردية)

تألیف

ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ علیہ

ترجمہ

ڈاکٹر رضاء اللہ محمد اور لیں مبارکپوری حفظہ اللہ علیہ

مراجعة و نظر ثانی

دفتر تعاون برائے دعوت و توعیۃ الجالیات ربہ

طبعہ و اشاعت

دفتر تعاون برائے دعوت و توعیۃ الجالیات ربہ، ریاض

مملکت سعودی عرب

ایڈیشن ۲۰۰ لئے امداد مطابق
تمام حقوق برائے سائٹ دارالاسلام محفوظ ہیں
اس کتاب کی عبارت کو بغیر کسی ترمیم و تبدیلی اور امامت و دیانت کی شرط
کے ساتھ نقل کرنے کی اجازت ہے
کسی قسم کے سوال یا تصحیح یا تجویز کے لیے درج ذیل سائٹ پر مراسلت کریں:

www.islamhouse.com



۱۹۱۸

۲۰۰ لئے امداد مطابق
دفتر تعاون برائے دعوت و توعیۃ الجالیات بالربوة
ٹیلیفون: ۳۳۵۳۹۰۰ - ۳۹۱۶۰۶۵
انٹرنیٹ سائٹ کا پتہ:

www.islamhouse.com

٢٠٠٦، ١٤٢٧

جميع الحقوق محفوظة

ويحق لمن شاءأخذ ما يريد من هذه المادة بشرط الأمانة في النقل وعدم
التغيير في النص المنقول، والله الموفق

أى سؤال أو اقتراح أو تصحيح يرجى مراسلتنا من الموقع التالي:

www.islamhouse.com

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٤٤٥٤٩٠٠ - ٤٩١٦٠٦٥

عنوان الموقع:

www.islamhouse.com

مُقْدِمَةٌ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدَرَ فَهْدَى، وَخَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الدَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ
إِذَا تُمْنَى، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ
وَالْأُولَى، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَرَأَى مِنْ
آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أُولَى الْمَنَاقِبِ
وَالنُّهَى، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا مُؤَمِّدًا -

أَمَّا بَعْدُ:

تمام تعریف اللہ ذوالجلال کے لئے ہے جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ
کیا اور پھر راہ دکھائی، اور جوڑا (زرمادہ) پیدا کیا نطفہ سے جبکہ وہ پکایا
جاتا ہے، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برق نہیں، وہ
اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، تمام تعریفیں دنیا و آخرت میں
اسی کے لئے ہیں۔ اور یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے
اور اس کے رسول ہیں جنہیں آسمان کی معراج کرائی گئی تو انہوں نے
اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

اللہ تعالیٰ آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ کی آل و اولاد اور آپ کے اصحاب پر

جو اصحاب فضل و منقبت اور فہم و فراست ہیں، پر زیادہ سے زیادہ ہمیشہ ہمیشہ
درود وسلام نازل فرمائے۔

اسلام میں خواتین کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، کاروبار حیات کی متعدد
ذمہ داریاں ان کے سپرد کی گئی ہیں، رسول اکرم ﷺ مخصوص طور پر ان کو اپنی
تعلیمات سے نوازتے رہتے تھے، جو جهاد الوداع کے موقع پر عرفات کے خطبہ میں
آپ ﷺ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی تھی، ان تمام امور سے
 واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانہ میں خواتین لازمی توجہ کی مستحق ہیں، خصوصاً
موجودہ دور میں جبکہ مسلم خواتین سے ان کی عزت و ناموس کو سلب کرنے نیز
ان کو اپنے مقام و مرتبہ سے گرانے کے لئے مخصوص طریقہ سے ان پر یلغار کی
جاری ہے اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لئے انہیں خطرات سے آگاہ کرنا
اور ان کے لئے راہ نجات کی نشاندہی کرنا از حد ضروری ہے۔

زیر نظر کتاب کے بارے میں ہماری یہی توقع ہے کہ اس کے اندر خواتین
سے متعلق جو مخصوص احکامات بیان کئے گئے ہیں ان کی وجہ سے کتاب اس راہ
میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، یہ ایک حقیر اور متواضع شمولیت ہے، لیکن
ایک کم مایہ شخص کی حتی المقدور کوشش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب
کو اس کے حجم اور مقدار کے مطابق کار آمد اور نفع بخش بنائے، خواتین کی

رہنمائی اور اور ان کے لئے راہ نجات کی نشاندہی کے تعلق سے یہ پہلا قدم ہے، امید ہے کہ اس کے بعد اس سے زیادہ عمومیت اور شمولیت کے ساتھ اگلے قدم اٹھائے جائیں گے جن میں زیادہ بہتر اور مکمل طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اس عجلت میں پیش کی گئی معلومات کو درج ذیل فصول کے تحت بیان کیا گیا ہے:

فصل اول: عام مسائل و احکام

فصل دوم: خواتین کی جسمانی زینت و آرائش سے متعلق مسائل

فصل سوم: حیض، استحاضہ اور نفاس کے مسائل

فصل چہارم: لباس اور پرده کے مسائل

فصل پنجم: نماز سے متعلق خواتین کے مخصوص مسائل

فصل ششم: جنازہ سے متعلق خواتین کے مخصوص مسائل

فصل ہفتم: روزہ سے متعلق خواتین کے مخصوص مسائل

فصل ہشتم: حج اور عمرہ سے متعلق خواتین کے مخصوص مسائل

فصل نهم: ازدواجی زندگی سے متعلق مسائل

فصل دهم: خواتین کی عزت و ناموس اور ان کی عفت و شرافت کو ضمانت فراہم کرنے والے احکام و مسائل

فصل اول

عام مسائل واحکام

۱- عورتوں کا مقام قبل از اسلام:

قبل اسلام سے مراد زمانہ جاہلیت ہے جس وقت عرب باخصوص اور روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان بالعموم زندگی بسر کر رہے تھے اور لوگ عہد فترہ (۱) سے گذر رہے تھے، ہدایت اور نجات کی راہیں ناپید ہو چکی تھیں، حدیث نبوی کے بیان کے مطابق ”اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر ڈالی تو اہل کتاب سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر عرب و عجم کے تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا،“ (۲)

اس عہد میں خواتین عموماً اور عرب معاشرہ میں خصوصاً سخت آزمائشی دور سے گذر رہی تھیں، عرب بچیوں کی ولادت کو سخت ناپسند کرتے تھے، کچھ ایسے

(۱) فترہ: دونبیوں کے درمیان کے زمانہ کو کہتے ہیں۔

(۲) یہ ایک طویل حدیث کا مکمل ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عیاض بن حماد مجاشی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، مذکورہ مکمل کے الفاظ یہ ہیں: (إِنَّ اللَّهَ نَأَرَى إِلَيْيَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَعَقَّتْهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَحَمَّهُمْ إِلَّا بَقَاءِيَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.....)
صحیح مسلم، کتاب البجۃ (مترجم)

تھے جو انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ مٹی کے نیچے دب کر دم توڑ دیں، اور کچھ ایسے بھی تھے جو ان کی تربیت و کفالت سے دست بردار ہو کر انہیں ذلت و رسائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے تھے، اسی صورتِ حال کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ ﴾
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيْمِسِكُهُ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدْسُهُ فِي
الثُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (سورة النحل: ٥٨، ٥٩)

”ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے، اس بڑی خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لئے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبادے، آہ! کیا ہی بڑے فیصلے کرتے ہیں“۔

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُعِلَتْ ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ (سورة التکویر: ٨، ٩)
”جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی“۔

”موءودۃ“ اس بچی کو کہتے ہیں جو زندہ درگور کر دی گئی ہو کہ مٹی کے نیچے

دب کر دم توڑ دے۔ اگر لڑکی زندہ درگور کئے جانے سے کسی طرح بچ جاتی تو اسے نہایت اہانت آمیز زندگی گذارنی پڑتی تھی، اس کو اپنے قربی لوگوں کے ترکہ سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، خواہ اس کے اقرباء کتنے ہی صاحب دولت و ثروت کیوں نہ ہوں، اور وہ خود کتنی ہی غربت و محتاجی کی زندگی کیوں نہ گذار رہی ہو، کیونکہ ان کے یہاں عورتوں کے بجائے صرف مردوں کو ہی ترکہ ملتا تھا، عورتوں کو ترکہ کیا ملتا وہ خود مالِ میراث کی طرح وفات پانے والے شوہروں کے ورثاء میں تقسیم کی جاتی تھیں۔

ایک شوہر کی زوجیت میں بے شمار عورتیں ہوا کرتی تھیں، کیونکہ ان کے نزدیک تعدد ازواج کی کوئی قید نہیں تھی، اور اس کی بنا پر ان عورتوں کو لاحق ہونے والی پریشانیوں، تنگیوں اور ظلم و زیادتی کی وہ کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔

۲- اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ:

جب اسلام آیا تو اس نے عورتوں پر ہونے والے ظلم و زیادتی کا خاتمه کرتے ہوئے ان کی انسانی حیثیت اور مرتبہ کو انہیں واپس دلایا، ارشادِ رباني ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى﴾ (الحجرات: ۱۳)

”اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک (ہی) مرد و عورت سے پیدا کیا ہے۔“
اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انسان ہونے میں عورت مرد کے مساوی درجہ رکھتی ہے، اسی طرح اعمال پر جزا و سزا میں بھی دونوں برابر اور یکساں حیثیت رکھتے ہیں:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيهِ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾

﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الحل: ۹۷)

”جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔“

ارشاد رباني ہے:

﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾

(الاحزاب: ۷۳)

”(یہ اس لئے) کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے۔“

اللہ تعالیٰ نے عورت کی اس حیثیت کو حرام و ممنوع قرار دیا ہے کہ مرنے والے شوہر کے متزوکہ مال میں اسے شمار کیا جائے، چنانچہ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ (النساء: ١٩)

”اے ایمان والو! تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو،-

اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ان کی اپنی ایک مستقل حیثیت کی ضمانت دی ہے،
مال موروث نہ شمار کر کے انھیں وارث بنایا ہے، خویش واقارب کے مال
متروک میں ان کا حصہ معین کیا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے:

﴿إِلَرْجَاهِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مُفْرُوضًا﴾

(النساء: ٧)

”مال باپ اور خویش واقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے
اور عورتوں کا بھی، (جو مال باپ اور خویش واقارب چھوڑ کر میریں)
خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ (اس میں) حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔“

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے:

﴿يُوصِينُكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً

فَوَقَ اثْتَتْيَنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾

(النساء: ١١) -

”اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے

کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دو تھائی ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لئے آدھا ہے۔

اسی طرح کی متعدد وہ تمام آیات کریمہ ہیں جو مال میراث میں ماں، بیٹی، بہن، بیوی کی صورت میں خواتین کے حصوں کی تعین کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔

ازدواجی زندگی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار بیویوں کی آخری حد متعین کر دی ہے، بشرطیکہ ان کے مابین حتی المقدور عدل و انصاف قائم کیا جائے، اور ان کے ساتھ حسن معاشرت کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَعَاشُرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (النساء: ۱۹)

”ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔“

اور مہر کو عورتوں کا حق قرار دیتے ہوئے اس کی مکمل ادائیگی کا حکم دیا ہے مگر یہ کہ عورت خوش دلی کے ساتھ از خود معاف کر دے۔

فرمان الٰہی ہے:

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا﴾

فَكُلُوهُ هَنِيْثَا مُرْيِثَا ﴿النساء: ٤﴾

”اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو۔“

اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں ایک ایسے نگہبان کی حیثیت عطا کی ہے جو امر و نہی کی مالک ہوتی ہے اور اپنے بچوں کی مالکن اور سردار ہوتی ہے، ارشاد نبوی ہے:

(الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتٍ رُّوْجَهَا وَ مَسْؤُلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا)۔

”عورت اپنے شوہر کے گھر اور بال بچوں کی نگران ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔“

اسی طرح شوہر پر معروف طریقے سے بیوی کے نان و نفقة اور لباس وغیرہ کے اخراجات کی ذمہ داری عائد کی ہے۔

۳- دشمنان اسلام اور ان کے چیلے خواتین سے ان کی عزت و ناموس اور ان کے حقوق کو سلب کرنا چاہتے ہیں:

آج کے دور میں دشمنان اسلام بلکہ دشمنان انسانیت کفار و منافقین اور کچ روی اختیار کرنے والوں کو اسلام میں خواتین کو ملی ہوئی عزت و شرافت اور تحفظ سخت ناگوار معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ عورتوں کو بتاہی و بر بادی اور

ہلاکت کے ایک ایسے وسیلہ اور ایک ایسے جال کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں جس کے ذریعہ وہ اپنی یہجان انگیز شہوتوں کو تسلیم پہنچانے کے بعد کمزور ایمان، بے قابو، اور خواہشات وہوس سے مغلوب لوگوں کو اپنے پھندے میں گرفتار کر سکیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے حق میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾

”اور جو لوگ خواہشات نفس کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس راہ راست سے بہت دور ہٹ جاؤ“۔ (النساء: ٢٧)۔

(حد ہو گئی کہ) بیمار دل اور کج رو مسلمان بھی خواتین کے تعلق سے یہی چاہتے ہیں کہ شیطانی خواہشات اور شہوانی میلان رکھنے والے تاجر و میلہ میں ان کو سستے سامانوں کی طرح رکھا جائے جو خریداروں کے سامنے بالکل کھلے رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کے خوبصورت مناظر سے لطف انداز ہو سکیں یا اس کے توسط سے ان کو بدترین عمل تک رسائی حاصل ہو سکے، چنانچہ ان کے اندر اس بات کی شدید رغبت پائی جاتی ہے کہ خواتین اپنے گھروں کی چہار دیواری سے نکل کر مردوں کے دوش بدوش ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، یا ہسپتالوں میں بحیثیت نرس مردوں کی تیارداری کریں اور ان کی خدمت انجام دیں، یا ہوائی جہازوں میں بحیثیت ایر ہو سٹس یا مخلوط تعلیم

گاہوں میں بحیثیت طالبات اور ٹھپرزر، یا تھیڑوں میں بحیثیت اداکارہ یا گلوکارہ، یا مختلف ذرائع ابلاغ میں بحیثیت اناؤنسر کام کریں، جہاں وہ اپنی شکل و صورت اور اپنی آواز سے لوگوں کو فتنوں میں بنتلا کریں۔ فخش رسائل و اخبارات نے دو شیراؤں کی ہیجان انگیز عریاں تصویریوں کو اپنی مارکیٹنگ اور بازاروں میں رواج حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنارکھا ہے، اسی طرح بعض تاجریوں اور صنعتی کمپنیوں نے اسی نوعیت کی فخش تصویریوں کو اپنے سامان کی تجارت اور اپنے پروڈکٹس (مصنوعات) پر آویزاں کر کے انہیں فروغ دینے کا وسیلہ اور ذریعہ بنارکھا ہے، ان تمام غلط حرکتوں کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ خواتین اپنے گھروں کے اندر اپنی حقیقی اور اصل ذمہ داریوں سے دست بردار ہو گئیں، اس وجہ سے ان کے خاوند اپنے بچوں کی تربیت اور گھریلو ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لئے بیرون ملک سے خادماؤں کو درآمد کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جس کا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ بیشمار فتنے اور بڑی بڑی براہیاں جنم لیتی ہیں۔

۲- خواتین کے لئے تعلیم و تعلم اور ملازمت کی اجازت:

گھر کے باہر خواتین کی سروس یا دیگر کام کرنے کے ہم مخالف نہیں ہیں بشرطیکہ وہ مندرجہ ذیل ضوابط کے تحت ہوں:

۱- عورت اس ملازمت کی یا معاشرہ اس کے کام کا واقعی ضرورتمند ہو،

مردوں میں اس کام کو انجام دینے والا موجود نہ ہو۔

۲- گھریلو ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد ہی وہ گھر کے باہر سروں کر سکتی

ہے کیونکہ گھریلو ذمہ داریوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

۳- مردوں سے دور رہ کر محض خواتین کے نیچ میں اس طرح کی سروں کی

جا سکتی ہے، مثال کے طور پر عورتوں کی تعلیم و تربیت، ان کی تیمارداری اور ان

کا علاج و معالجہ۔

۴- اسی طرح دینی امور کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے عورتوں کے گھر

سے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ ایک ضروری چیز ہے، جن دینی

مسائل کی عورت کو ضرورت ہو انہیں سیکھنے اور حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں

ہے، بشرطیکہ انہیں عورتوں کے درمیان رہ کر حاصل کیا جائے، مساجد وغیرہ میں

قائم کئے جانے والے وعظ و نصیحت کے دروس کی حاضری میں بھی کوئی مضافات

نہیں ہے، بشرطیکہ پردہ کے ساتھ اور مردوں کے اختلاط سے دور ہو، جیسا کہ

ابتداء اسلام میں خواتین مساجد میں حاضر ہو کر سیکھتی اور سکھاتی تھیں۔

فصل دوم

خواتین کی جسمانی زینت و آرائش (بناو سنگھار) سے متعلق مسائل

۱- عورتوں کے مخصوص اور ان کے مناسب جو خصائص فطرت ہیں ان میں ناخن کا تراشنا اور برابر ان کی خبرگیری کرنا عورت سے مطلوب ہے، کیونکہ ناخن تراشنے کے مسنون ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے، یہ ان خصائص فطرت میں سے ہے جن کا ذکر حدیث نبوی میں وارد ہوا ہے^(۱) اور ناخن کاٹنے میں نظافت اور خوبصورتی پائی جاتی ہے، جبکہ انھیں بڑھانے میں بد شکلی (بحدا پن) درندوں سے مشابہت، ان کے نیچے پانی کا نہ پہنچنا، اور ان کے اندر گندگی و غلاظت کا جمع ہونا، یہ سب خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ سنت سے ناواقفیت اور کافر

(۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم ﷺ سے مرفوعاً روایت کرتی ہیں:

عَشْرَ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ الْلَّحْيَةِ وَالسَّوَاقُ وَاسْتِنْشَافُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَفْعُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَائِنَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ - قال الرَّاوِي - وَتَسِيبُتُ الْعَاشرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ

”وس باتیں خصائص فطرت میں سے ہیں: موچھوں کا تراشنا، داڑھی کا بڑھانا، مسوک، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے پوروں کا دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف کا بنانا، استنجاء کرنا۔ راوی کا کہنا ہے کہ دسویں بات میں بھول گیا ہوں، ہو سکتا ہے دسویں بات کلی کرنا ہو۔ (مترجم)

عورتوں کی تقلید کی وجہ سے بعض مسلم خواتین بھی ناخن بڑھانے کی وبا میں بنتا
ہو گئی ہیں۔

زیر ناف اور بغل کے بالوں کی صفائی بھی عورتوں کے لئے مسنون ہے،
کیونکہ حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے اور اسی میں خوبصورتی اور جمال ہے۔
زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتہ اس عمل کو انجام دیا جائے، یا چالیس دن سے زیادہ
انھیں نہ چھوڑا جائے۔

۲- سر اور ابرو کے بالوں کے بارے میں اسلام کا حکم، خضاب اور بالوں
کے رنگنے کا حکم:

الف: مسلم خواتین سے سر کے بالوں کا بڑھانا مطلوب ہے، بلا کسی
ضرورت انہیں منڈانا حرام ہے۔ شیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ (سابق) مفتی
 سعودی عرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”عورتوں کے سروں کے بالوں کا موٹڈنا جائز نہیں ہے، کیونکہ امام نسائی
رحمہ اللہ نے اپنی سفون میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، امام بزار رحمہ اللہ نے
اپنی مند میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، اور علامہ ابن جریر (طبری)
رحمہ اللہ نے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے سنداً روایت کیا ہے کہ رسول
اللہ ﷺ نے عورت کو اپنے سر کے بال منڈانے سے منع فرمایا ہے۔

آپ ﷺ کی نہیں (ممانعت) اگر اس کا کوئی معارض و مخالف حکم موجود نہ
ہو تو تحریم کی مقاضی ہوتی ہے (یعنی ایسی نہیں تحریم کے لئے ہوتی ہے)
ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقاۃ شرح مشکوۃ میں لکھتے ہیں: رسول اکرم ﷺ کا
یہ فرمان مبارک: (أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا) اس وجہ سے ہے کہ خواتین کے حق
میں چوٹیوں کو شکل و صورت اور حسن و جمال میں وہی حیثیت حاصل ہے جو
مردوں کے حق میں داڑھی کو حاصل ہے، (مجموع فتاویٰ اشیخ محمد بن ابراہیم ۲/۴۹).
سر کے بالوں کو زیب وزینت کے علاوہ کسی دوسرے مقصد سے چھوٹا کرنا،
مثال کے طور پر ان کی حفاظت وغیرہ سے عورت عاجز ہو جائے، یا اتنے زیادہ
طویل ہو جائیں کہ عورت کے لئے تکلیف دہ ثابت ہوں، تو بقدر ضرورت ان
کو چھوٹا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بعض ازواج مطہرات (رضوان
اللہ علیہ حسن) رسول اکرم ﷺ کی وفات کے بعد ایسا کرتی تھیں، اس لئے کہ
انہوں نے آپ ﷺ کی وفات کے بعد زیب وزینت کو ترک کر دیا تھا اور
بالوں کو بڑھانے اور انہیں سنوارنے کی ان کو حاجت و ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔
اور اگر بالوں کو چھوٹا کرانے سے کافرہ اور فاسقہ عورتوں یا مردوں کی مشابہت
اختیار کرنا مقصود ہے تو یہ بلا شک و شبہ حرام ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ
نے کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے عموماً اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت

اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔

اور اگر بالوں کو چھوٹا کرانے سے زیب و زینت مقصود ہے تو واضح بات یہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں، استاد محترم شیخ محمد امین شدقیطی رحمہ اللہ اپنی تفسیر (اضواء البيان) میں لکھتے ہیں:

”بہت سے (مسلم) ممالک میں خواتین کا اپنے بالوں کو جڑوں کی حد تک چھوٹا کرانے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، درحقیقت یہ فرنگی طور طریقہ ہے جو اس طور طریقہ کے بالکل مخالف ہے جس پر مسلم خواتین بلکہ قبل از اسلام عرب خواتین گامزن تھیں۔ یہ طریقہ ان تمام انحرافات میں سے ایک ہے جو دین و اخلاق اور شکل و صورت وغیرہ میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔“

اس کے بعد موصوف نے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے جس میں یہ وارد ہوا ہے کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اپنے بالوں کو وفرہ (کانوں تک لٹکے ہوئے بال) کی حد تک چھوٹا کر لیتی تھیں، اور اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ازواج مطہرات نے رسول اکرم ﷺ کی وفات کے بعد اپنے بالوں کو چھوٹا کرایا تھا، اس لئے کہ وہ آپ کی زندگی میں زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کرتی تھیں اور ان کی بہترین زیب و زینت میں ان کے بال بھی تھے۔ آپ

کی وفات کے بعد ان کو ایک خاص حکم حاصل ہو گیا تھا جس کی رو سے پورے روئے زمین کی تمام خواتین میں سے کوئی بھی خاتون ان کی شریک اور ہم سر نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ خاص حکم یہ تھا کہ شادی کے تعلق سے ان کی ساری توقعات کا خاتمه ہو چکا تھا اور شادی سے وہ اس طرح نا امید ہو چکی تھیں کہ اس میں کسی حرص و طمع کی ادنیٰ آمیزش بھی نہیں پائی جاتی تھی، چنانچہ وہ ایسی عدت گذار عورتیں تھیں جو تاحیات رسول اکرم ﷺ کی زوجیت میں ہونے کی وجہ سے محبوس تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ

بَعْدِهِ أَبْدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ (الاحزاب: ۵۳)

”اور نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ ﷺ کو تکلیف دو اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کسی وقت بھی آپ ﷺ کی بیویوں سے نکاح کرو (یاد رکھو) اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا (گناہ) ہے۔“

مردوں سے کمل بے رغبتی اور مایوسی زیب وزینت کی بعض ایسی چیزوں میں کوتاہی اور سستی کے لئے رخصت کا سبب بن سکتی ہے جو کسی دوسرے سبب کی بناء پر جائز نہیں ہو سکتی ہیں۔ (اضواء البيان (۵/۵۹۸-۶۰۱)۔ (اگر خاوند عورت کو بال چھوٹا کرنے کا حکم بھی دے تو اس کی اطاعت عورت کے لئے جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی

معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں)۔

لہذا عورتوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے سروں کے بالوں کی مکمل حفاظت کریں اور ان پر پوری توجہ دیں اور ان کی چوٹیاں بنا کر رکھیں، انھیں سروں پر یا سر کے پچھلے حصے پر اکٹھا کر کے باندھنا جائز نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ (۱۲۵/۲۲) میں فرماتے ہیں:

”جس طرح بعض آبرو باختہ عورتیں اپنے بالوں کی ایک ہی چوٹی بنا کر اور اسے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا کر رکھتی ہیں“۔

سعودی عرب کے (سابق) مفتی شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”عصر حاضر کی بعض مسلم خواتین کا یہ عمل کہ سر کے بالوں کو ایک جانب سے لگھی کر کے پچھلے حصہ (گدی) میں یا سر کے اوپر باندھ لیتی ہیں جیسا کہ انگریز عورتیں کرتی ہیں تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس میں کفار کی عورتوں سے مشابہت پائی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

«صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرْ هُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ
يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَ نِسَاءً كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ
رُءُ وَ سُهُنَ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يَجِدُنَ

رِيْحَهَا وَإِنْ رِيْحَهَا لَيُوَجِّدُ مِنْ مَسِيرَةَ كَذَا وَ كَذَا“

”جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کے مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو بس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، مٹک مٹک کر، موئڑھوں اور کولہوں کو ہلا ہلا کر چلیں گی، ان کے سراونٹ کے جھکے ہوئے کوہاں کی طرح ہوں گے، وہ نہ توجنت میں داخل ہونگی اور نہ ہی اس کی خوبیوں پائیں گی، حالانکہ اس کی خوبیوں اتنی اتنی مسافت سے پائی جائے گی۔“ (سلم).

بعض اہل علم نے حدیث میں وارد لفظ ”مَائِلَاتٌ مُّمِيلَاتٌ“ کی تفسیر و توضیح کرتے ہوئے لکھا ہے:

”ان کے کنگھی کرنے کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے کہ بال ایک جانب جھکے ہوتے ہیں، یہ فاحشہ اور بد کار عورتوں کی کنگھی کا طریقہ ہے، اور (ممیلات) ان عورتوں کو کہتے ہیں جو دوسری عورتوں کو اس طرح کی کنگھی کریں، درحقیقت یہ فرنگی (یورپی) خواتین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی مسلم خواتین کی کنگھی کا طریقہ ہے۔“ (مجموع فتاویٰ اشیخ ۲/۷۴ - نیز ملاحظہ ہوا لیاضح و تبیین مؤلفہ شیخ حمود تویجری ص ۸۵)۔

جس طرح خواتین کو بلا ضرورت سروں کے بالوں کو منڈوانے یا چھوٹا کرانے سے روکا گیا ہے اسی طرح انہیں اپنے بالوں میں مزید دوسرے بالوں کو جوڑ کر اضافہ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، چنانچہ صحیحین میں وارد ہے:

(لَعْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَوَّلِ صِلَةً وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)

”رسول اکرم ﷺ نے واصلہ اور مستوصلہ پر لعنت بھیجی ہے۔“

واصلہ: اس عورت کو کہتے ہیں جو غیر کے بالوں کو جوڑ کر اپنے بالوں میں اضافہ کرتی ہے۔

مستوصلہ: اس عورت کو کہتے ہیں جس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔

یہ عمل اس وجہ سے ممنوع اور حرام ہے کہ اس میں فریب اور دھوکہ پایا جاتا ہے، اس ممنوعہ اضافہ میں باروکہ (وگ) کا استعمال بھی شامل ہے جو اس وقت کافی رواج پکڑتا جا رہا ہے۔

امام بخاری و امام مسلم رحمہما اللہ وغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک تقریر کی، دوران تقریر انہوں نے بالوں کا ایک گچھا نکال کر فرمایا: تمہاری خواتین کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے سروں میں اس طرح کی چیز استعمال کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے:

«مَا مِنْ اُمْرَأٌ تَجْعَلُ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا إِلَّا كَانَ زُورًا»

”اگر کوئی عورت اپنے سر میں کسی غیر کا بال لگاتی ہے تو وہ جھوٹ اور

فریب ہوتا ہے۔“

باروکہ(وگ) ایسے مصنوعی بالوں کو کہتے ہیں جو سر کے بالوں کے مشابہ

تیار کیے جاتے ہیں، اس کے استعمال میں فریب اور دھوکہ دہی ہوتی ہے۔

ب- مسلم خواتین کے لئے ابرو کے تمام بالوں کو یا بعض بالوں کو موڈ کر،

ترشوا کر یا بال صفا دوائیں استعمال کر کے صاف کرنا حرام ہے، کیونکہ اسی کو

نمص کہا جاتا ہے جس کا ارتکاب کرنے والی خواتین پر رسول اکرم ﷺ نے

لعنت بھیجی ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے:

((لَعْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاصِحَةُ وَالْمُتَمَمِّصَةُ))

”نبی کریم ﷺ نے ناصحہ اور متمنصہ پر لعنت بھیجی ہے۔“

ناصحہ: اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے خیال میں زیب وزینت اختیار

کرنے کے لئے اپنے ابرو کے تمام بالوں کو یا کچھ بالوں کو صاف کرتی ہے۔

متمنصہ: اس عورت کو کہتے ہیں جس کے لئے اس عمل کو انجام دیا جائے۔

یہ عمل درحقیقت اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تغیر و تبدیلی کرنے کے متراود ہے

جس کے بارے میں شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بنی آدم کو اللہ تعالیٰ کی

خلقت میں تبدیلی کا حکم دے گا، چنانچہ اس نے کہا تھا جیسا کہ اللہ رب
العزت نے اس سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے:

﴿وَلَا مِرْنَاهُمْ فَلَيَعْبُرُونَ خَلْقَ اللَّهِ﴾

”اور میں ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ

دیں“۔ (النساء: ۱۱۹)

صحیح مسلم میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
آپ نے فرمایا: ”ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو گودنا گودتی ہیں اور
گودنا گدواتی ہیں، اور جواہرو کے بال اکھیرتی اور اکھڑواتی ہیں، اور دانتوں کو
گھسا کر خوبصورت بناتی ہیں، درحقیقت وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑنے
والی ہیں“۔ (۱)

اس کے بعد آپ فرماتے ہیں: ”کیا میں ان لوگوں پر لعنت نہ بھیجوں جن
پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت بھیجی ہے؟ اور یہ حکم اللہ کی کتاب میں موجود ہے؟“۔
آپ کی مراد اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہے:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: ۷)

”تمہیں جو کچھ رسول دین لے لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ“۔

(۱) صحیح مسلم، کتاب الملابس والزینہ (۳/۲۷۸، حدیث ۲۱۲۵) [متربم]

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر (۲/۳۵۹ مطبوعہ دارالاندلس) میں
اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔

اس سلسلیں اور خطرناک وبا میں آج بے شمار عورتیں مبتلا ہو گئی ہیں،
درحقیقت یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ ابرو کے بال صاف
کرنا روزمرہ کی ضروریات میں شامل ہو گیا ہے، اگر کسی عورت کا خاوند اس کا
حکم دے تو بھی اس کی اطاعت نہیں جائز ہے، کیونکہ یہ ایک معصیت اور گناہ
کا کام ہے۔

ج - زینت و آرائش کے مقصد سے دانتوں کو گھسا کر ان میں جھری

(دراز) بنانا مسلم خواتین کے لئے حرام ہے، وہ اس طرح سے کہ خوبصورتی پیدا
کرنے کے لائق میں دانتوں کو ریتی سے گھس کر ان کے درمیان مختصر شگاف
بنالیا جائے۔ البتہ اگر دانتوں میں کسی قسم کی بدشکلی پائی جاتی ہو اور اس کو دور
کرنے اور دانتوں کو صحیح کرنے کے لئے آپریشن کی ضرورت پڑے، یا ان میں
کیٹرے پیدا ہو جائیں اور ان کو ختم کرنے کے لئے اصلاح کی ضرورت پیش
آئے تو اس میں کوئی حرج یا مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ علاج و معالجہ اور
بدصورتی کو ختم کرنے کے قبیل سے ہے اور اسے اسپیشلیسٹ لیڈی ڈاکٹر کے
ہاتھوں انجام دیا جائے گا۔

۵۔ جسم میں گودنا گودوانے کا عمل بھی عورتوں پر حرام ہے، کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے واشمہ اور مستوشمہ پر لعنت بھیجی ہے۔

واشمہ: اس عورت کو کہتے ہیں جو ہاتھ یا چہرے میں سوئی چھو کر اس جگہ کو سرمه یا روشنائی سے بھردے (یعنی گودنا گونے والی عورت)

مستوشمہ: اس عورت کو کہتے ہیں جس پر یہ عمل کیا جائے۔ یہ عمل حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے گودنا گونے والی اور گودوانے والی دونوں عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اور شریعت میں صرف کبیرہ گناہ پر ہی لعنت بھیجی گئی ہے۔

۶۔ خواتین کے لئے خضاب (مہندی) لگانے اور بالوں کے رنگنے کا حکم:

۱۔ خضاب: امام نووی رحمہ اللہ الکلیم مجموع (۳۲۳/۱) میں فرماتے ہیں: ”دونوں ہاتھوں اور پیروں کا مہندی سے رنگنا شادی شدہ عورت کے لئے مستحب ہے، اس سلسلہ میں کئی حدیثیں معروف و مشہور ہیں۔“

امام نووی کا اشارہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی اس روایت کی جانب ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک عورت نے مہندی لگانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں اسے ناپسند کرتی ہوں کیونکہ میرے محبوب رسول اکرم ﷺ کو اس کی بونا پسند تھی۔

اس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے، آپ ہی سے دوسری حدیث بھی مروی ہے فرماتی ہیں: ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے رسول اللہ ﷺ کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا اس کے ہاتھ میں ایک مکتب تھا آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا، اور فرمایا: مجھے معلوم نہیں کہ یہ ہاتھ کسی مرد کا ہاتھ ہے یا کسی عورت کا؟ اس نے کہا: یہ ایک عورت کا ہاتھ ہے، آپ نے فرمایا:

((لَوْ كُنْتِ امْرَأً لَغَيْرِتِ أَظْفَارَكِ)) (یعنی بالحناء)
اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو تبدیل کر لیتی (یعنی مہندی سے)
(ابوداؤد ونسائی)۔

لیکن ایسی چیزوں سے وہ اپنے ناخنوں کو ہرگز نہیں رنگ سکتی ہے جو ان پر منجد ہو کر طہارت کے پانی کے لئے رکاوٹ بن جاتی ہیں (جیسے نیل پاش والے رنگ)۔
۲- خواتین کا اپنے بالوں کو رنگنے اور ان میں خضاب لگانے کا جہاں تک سوال ہے تو اگر بالوں میں سفیدی ظاہر ہو چکی ہے تو انہیں سیاہ رنگ کے علاوہ کسی دوسرے رنگ سے رنگ سکتی ہے، کیونکہ سیاہ خضاب سے رسول اکرم ﷺ سے وارد ممانعت میں مردوں اور عورتوں کے درمیان عمومیت پائی جاتی ہے، چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ ریاض الصالحین (ص) ۶۲۶ میں ایک

باب کا عنوان قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مردوں اور عورتوں کو سیاہ خضاب لگانے کی ممانعت“۔

اور الجمیع شرح المحدث (۱/۳۲۸) میں لکھتے ہیں:

”سیاہ خضاب سے ممانعت میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں
ہے، یہی ہمارا مذہب ہے“۔

اگر کوئی عورت اپنے سیاہ بالوں کو کسی دوسرے رنگ سے بد لئے کے لئے
خضاب لگاتی ہے تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی
کوئی ضرورت نہیں ہے، بالوں کے لئے سیاہ رنگ ہی خوبصورتی کا باعث ہوتا
ہے اور اس میں ایسی کوئی بدشکلی نہیں پائی جاتی کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت
محسوں کی جائے، اور اس میں کافر عورتوں سے مشابہت بھی پائی جاتی ہے۔

رسم و رواج کے مطابق خواتین کے لئے سونے و چاندی کے زیورات کا
استعمال جائز ہے اس پر علماء کا اتفاق ہے، لیکن ان زیورات کا محرم لوگوں کے
علاوہ دوسرے اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو
چھپائیں گی، خصوصاً گھر سے باہر نکلتے وقت اور ایسے وقت جبکہ مردوں کی
نگاہیں ان پر پڑتی ہوں، کیونکہ یہ فتنہ کا باعث ہے، اور عورتوں کو اس بات سے
منع کیا گیا ہے کہ کپڑوں کے نیچے پوشیدہ زیورات کی آواز کو مردوں کو سنائیں،

چنانچہ ارشادِ ربیٰ ہے:

﴿وَلَا يَضْرِبُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيَنَّ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ (النور: ۳۱)

”اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ

زمینت معلوم ہو جائے۔“

لہذا ظاہری زیورات کے بارے میں بدرجہ اولیٰ ممانعت ہو گی۔

فصل سوم

حیض، استحاضہ اور نفاس کے مسائل

۱- حیض اور اس کے مسائل:

حیض: لغت میں سیلان (بہنہ) کو حیض کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کے رحم (بچہ دانی) کے اندر سے متعینہ اوقات میں بغیر کسی بیماری یا زخم کے نکلتا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمام بنات آدم کے حق میں مقدر کر دیا ہے، اسے رحم مادر کے اندر پیدا کر کے اثناء حمل بچہ کے لئے غذا کا بندوبست کیا ہے، پھر یہی خون ولادت کے بعد دودھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، جب عورت حالت حمل میں نہیں ہوتی یا بچہ کو دودھ پلانے والی نہیں ہوتی تو اس خون کا کوئی مصرف نہیں رہ جاتا ہے، لہذا متعینہ اوقات میں خارج ہو جاتا ہے، اسی کو ماہواری کہا جاتا ہے۔

☆ کس عمر میں حیض کا خون شروع ہوتا ہے؟

عموماً سب سے کم عمر جس میں عورت کو حیض کا خون آنا شروع ہوتا ہے (۹) سال ہے، اور پچاس سال کی عمر تک باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَاللّٰهُ الْيُّوْنَسَنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ

أَشْهُرُ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ ﴿الطلاق: ٤﴾

”تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں اگر
تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض
آن اشروع ہی نہ ہوا ہو۔“

چنانچہ یا اسے عورت وہ ہے جو پچاس سال کی عمر کو پہنچ چکی ہو، اور جن کو
حیض آنا شرع نہیں ہوا ہے وہ نو سال سے کم عمر کی چھوٹی بچیاں ہیں۔

☆ حیض کے مسائل:

الف - حالت حیض میں عورت کے فرج میں طی (جماعت) حرام ہے،

دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي﴾

الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُتْهُنَّ مِنْ حَيْثُ

أَمْرُكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿البقرة: ٢٢٢﴾

”آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ
گندگی ہے لہذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک
وہ پاک نہ ہو جائیں تو ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاکی
حاصل کر لیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں

اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں
کو پسند فرماتا ہے۔

حائضہ عورت سے مجامعت کی حرمت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب
تک کہ خون آنا بند نہ ہو جائے اور عورت غسل (طہارت) سے فارغ نہ ہو
جائے، فرمان الٰہی ہے:

﴿ وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمْ ﴾

اللٰہ ﷺ (البقرة: ۲۲۲)

”تم حائضہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں،
ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ
نے تمہیں اجازت دی ہے۔“

حیض والی عورت سے اس کا خاوند فرج میں مجامعت کے علاوہ ہر جائز
شکل میں استمناع کر سکتا ہے لیکن زن و شوئی کے تعلقات قائم کر سکتا ہے، دلیل
صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں رسول اللٰہ ﷺ فرماتے ہیں:

(إِنْصَنِعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحَ)۔

یعنی ”سوائے مجامعت کے ہر کام کرو۔“

ب - حیض والی عورت مدت حیض میں نماز نہیں پڑھے گی اور روزہ نہیں

رکھے گی، اس پر روزہ نماز دونوں ہی حرام ہیں، ان کی ادائیگی حالت حیض میں صحیح نہیں ہوگی، اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

(أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ) (متفق عليه)

”کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حالت حیض میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے۔“

حیض سے پاک و صاف ہو جانے کے بعد عورت روزے کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

(كُنَّا نَحِيَضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُنَّا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) (متفق عليه)

”عہد رسول اللہ ﷺ میں ہم حالت حیض میں ہوتی تھیں تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔“

نماز روزہ میں فرق کی وجہ۔ واللہ اعلم۔ یہ ہو سکتی ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی بار بار تکرار ہوتی ہے، لہذا مشقت و پریشانی کے سبب اس کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔ جبکہ روزہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے (یعنی سال میں صرف ایک مرتبہ اس کا وقت آتا ہے)۔

ج- حیض کی حالت میں عورت کا قرآن کریم بغیر کسی حائل (اوٹ) کے

چھونا حرام ہے، دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

﴿لَا يَمْسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (الواقعة: ۷۹)

”اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔“

حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم ﷺ نے جو خط لکھا تھا اس

میں یہ بھی تھا: (لَا يَمْسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا طَاهِرٌ) (نسائی) وغیرہ۔

”مصحف کو صرف پاک و صاف شخص ہی چھو سکتا ہے۔“

چونکہ اس حدیث کو تمام لوگوں نے قبولیت کا درجہ دیا ہے (یعنی تمام لوگوں

نے اس کی صحت کو تسلیم کیا ہے) اس لئے یہ حدیث متواتر کی مانند ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امہ اربعہ کا مذهب ہے کہ قرآن کریم کو صرف طاہر (پاک و صاف)

شخص ہی چھو سکتا ہے، مصحف کو چھوئے بغیر حائضہ عورت کے قرآن کریم

پڑھنے کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے، زیادہ احتیاط اسی میں

ہے کہ صرف ضرورت کے وقت ایسا کر سکتی ہے، مثال کے طور پر بھول جانے

کا خطرہ ہو، واللہ اعلم، (یعنی اس طرح کی صورت حال میں قرآن چھوئے بغیر

پڑھ سکتی ہے)۔

۵ - حالت حیض میں خانہ کعبہ کا طواف بھی حرام ہے کیونکہ رسول

اکرم اللہ عنہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب ان کو حیض آگیا تھا
فرمایا تھا:

(إِفْعَلِيْ مَا يَقْعُلُ الْحَاجُّ عَيْرَ أَنْ لَا تَطْوُفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ)
”حج کے تمام اركان ادا کرو سوائے طواف کے، یہاں تک کہ پاک
وصاف ہو جاؤ۔“ (متفق علیہ)

۵۔ حائضہ عورت کا مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، دلیل امام ابو داؤد رحمہ اللہ
کی روایت کردہ حدیث ہے جس میں نبی کریم اللہ عنہم نے ارشاد فرمایا ہے:

(إِنِّي لَا أُجِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ)
”حائضہ اور جنپی کے لئے میں مسجد کو جائز نہیں کرتا ہوں۔“
امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے:

(إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَجْلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ)
”حائضہ اور جنپی کے لئے مسجد حلال نہیں ہے۔“

ابتہ ٹھہرے بغیر مسجد سے گذرنا اس کے لئے جائز ہے، دلیل حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جس میں رسول اکرم اللہ عنہم آپ سے چٹائی
طلب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(نَأَوِيلَيْنِي الْخُمْرَةُ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ

حِيْضَتِكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ -

”مسجد سے مجھے چٹائی دیدو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں حیض سے ہوں، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔“ (منقی (۱/۱۲۰) میں اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ تمام اصحاب کتب ستہ کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔

تہلیل (لا إله إلا الله) تکبیر (الله اکبر) تسقیح (سبحان الله) کہنے نیز دیگر مشروع ذکر واذکار اور دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح صبح و شام سوتے اور جاگتے وقت مشروع اوراد و وظائف کے پڑھنے، نیز تفسیر، فقہ، حدیث وغیرہ سے متعلق علمی کتابوں کے پڑھنے میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔

☆ فائدہ اول: حائضہ عورت سے خارج ہونیوالے صفرہ یا کدرہ (زرد یا

ٹیالے رنگ کا مادہ) کا حکم:

صفرہ: پیپ کی مانند ایک قسم کا مادہ جس پر زردی غالب ہوتی ہے۔

کدرہ: ٹیالے رنگ کے گندے پانی کی مانند ایک مادہ۔

اگر ماہواری کے ایام میں یہ دونوں مادے عورت سے خارج ہوں تو انہیں حیض ہی شمار کیا جائے گا، اس پر حیض کے تمام احکام لاگو ہوں گے، اگر ایام

حیض کے علاوہ دیگر ایام میں یہ دونوں مادے خارج ہوں تو عورت انہیں کچھ بھی نہیں شمار کرے گی، بلکہ اپنے آپ کو پاک و صاف تصور کرے گی، دلیل حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں:

(كُنَّا لَا نَعْدُ الْكُنْدِرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهُورِ شَيْئًا)

”هم لوگ طہارت کے بعد زرد یا میالے رنگ کے مادوں کو کچھ بھی نہیں شمار کرتے تھے۔“

اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے مگر ان کے یہاں ”بعد الطہور“ کا لفظ نہیں ہے۔

محدثین کے نزدیک اس حدیث کو مرفوع حدیث کا حکم حاصل ہے، کیونکہ اسے رسول اللہ ﷺ کی حدیث تقریری (۱) کا درجہ حاصل ہے۔ مذکورہ حدیث کا یہی حکم نکلا کہ زرد یا میالے رنگ کا مادہ طہارت (پاکیزگی) سے پہلے حیض شمار کیا جائے گا، اس پر حیض کے احکامات جاری ہوں گے۔

☆ فائدہ دوم: عورت کس طرح حیض کی انتہاء کو معلوم کر سکتی ہے؟

(۱) رسول اکرم ﷺ کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس پر سکوت فرمایا ہو اس کو شرعی جحت کی حیثیت حاصل ہے (مترجم)

حیض کی انتہاء کو خون بند ہونے سے معلوم کیا جا سکتا ہے، اس کی دو میں
سے کوئی ایک علامت ہوگی:

پہلی علامت: سفید پانی کا خارج ہونا۔

حیض کے بعد چونے کے پانی سے مشابہ ایک سفید پانی خارج ہوتا ہے،
سفید کے علاوہ کبھی دوسرے رنگ کا بھی ہوتا ہے، عورتوں کے حالات کے
اختلاف سے اس پانی کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے۔

دوسری علامت: خشکی، شرمگاہ میں کپڑے کا ٹکڑا یا روتی ڈال کر نکالے
توروتی یا کپڑے کا ٹکڑا بالکل خشک نکلے، اس پر نہ تو خون کا اثر ہو اور نہ ہی زرد
ٹیالے رنگ کے مادے کا۔

☆ حیض کا خون بند ہونے کے بعد عورت کیا کرے؟

خون بند ہونے کے بعد عورت پر غسل لازم ہے، چنانچہ طہارت کی نیت
سے اپنے پورے بدن پر پانی بھائے گی، کیونکہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:
(إِذَا أَقْبَلَتِ حَيْضَتُكِ فَدَعِيِ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتِ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)

”جب تمہیں حیض آجائے تو نماز ترک کر دو، اور جب بند ہو جائے تو
غسل کرو اور نماز پڑھو۔“

غسل کا طریقہ:

حدث (ناپاکی) دور کرنے کی یا نماز وغیرہ کے لئے طہارت (پاکی) حاصل کرنے کی نیت کرے، پھر بسم اللہ کہہ کر اپنے پورے جسم پر پانی بہائے، بالوں کی جڑوں کو بھی تر کرے، اگر بال کی چوٹیاں بندھی ہوئی ہوں تو ان کا کھولنا ضروری نہیں ہے، بس انہیں پانی سے تر کر لے گی، اگر پانی کے ساتھ بیری کی پتیاں، یا نظافت حاصل کرنے کی کوئی چیز استعمال کر لے تو بہتر ہے، غسل سے فراغت کے بعد شرم گاہ کے اندر خوشبو میں بھگوئی ہوئی روئی رکھنا مستحب ہے، کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو اس کا حکم دیا تھا، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

اہم تنبیہ:

حیض یا نفاس والی عورت کا خون اگر سورج غروب ہونے سے پہلے بند ہو جائے اور عورت حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے تو اس دن کی ظہر اور عصر دونوں نمازوں کا ادا کرنا اس پر لازم ہو گا، اور طلوع فجر سے پہلے طہارت حاصل کرتی ہے تو اس رات کی مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہو گا، کیونکہ حالت عذر میں دوسری نماز کا وقت پہلی نماز کے وقت کو بھی شامل ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ (۲۳۲/۲۲) میں لکھتے ہیں:

”اسی وجہ سے جمہور علماء جیسے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا
یہ مذهب ہے کہ حائضہ عورت اگر دن کے آخری حصہ میں پاک ہوتی ہے تو
ظہر اور عصر دونوں نمازیں ادا کرے گی، اور اگر رات کے آخری حصہ میں پاک
ہوتی ہے تو مغرب وعشاء دونوں نمازیں ادا کرے گی، یہی قول حضرت
عبدالرحمن بن عوف، حضرت ابو ہریرہ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے
بھی منقول ہے، اس لئے کہ حالت عذر میں وقت دونمازوں کے درمیان
مشترک ہوتا ہے، لہذا اگر دن کے آخری حصہ میں پاک ہوتی ہے تو ظہر کا
وقت ابھی باقی ہے، چنانچہ عصر کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز ادا کرے گی، اور
اگر رات کے آخری حصے میں پاک ہوتی ہے تو حالت عذر میں مغرب کا وقت
باقی ہے، چنانچہ عشاء کی نماز سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرے گی۔“

اگر کسی نماز کا وقت داخل ہو گیا اور اس نماز کی ادائیگی سے پہلے ہی عورت
کو حیض یا نفاس کا خون آگیا تو راجح قول کے مطابق اس نماز کی قضا اس پر
لازم نہیں ہے، جس کے اول وقت کو اس نے پالیا تھا، مگر اس نماز کو ادا کرنے
سے پہلے ہی وہ حیض یا نفاس میں مبتلا ہو گئی تھی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ
مجموع الفتاویٰ (۳۳۵ / ۲۳) میں اس مسئلے کے متعلق لکھتے ہیں:

”دلائل کے اعتبار سے سب سے راجح امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما

اللہ کا مذہب ہے، یعنی عورت پر کچھ بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ قضا کا وجوہ
ایک نئے حکم سے ثابت ہو گا، اور یہاں پر کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو عورت پر
قضا کو لازم قرار دیتا ہو، اور اس عورت نے جائز حد تک تاخیر کی ہے، لہذا
(اس تاخیر کی بناء پر) اس عورت کو سستی اور تسالی سے نہیں متصف کیا جائے
گا، سونے اور بھول جانے والا بھی اگر چہ سست اور متساہل نہیں قرار دیا جائے گا
لیکن یاد آجائے کے بعد جس نماز کو وہ ادا کرے گا اس کی وہ نماز قضا نہیں شمار
کی جائے گی، بلکہ اس کے حق میں نماز کا وقت یہی ہے۔

۲- استحاضہ اور اس کے مسائل:

استحاضہ: مقررہ وقت کے علاوہ دیگر ایام میں عاذل نامی رُگ سے خون کا
بکثرت خارج ہونا استحاضہ کہلاتا ہے، استحاضہ میں مبتلا عورت کا معاملہ قدرے
پیچیدہ ہے، کیونکہ حیض اور استحاضہ کے خون میں بڑی حد تک مشابہت پائی
جاتی ہے۔

اگر عورت سے بالاستمرار یا بیشتر اوقات میں خون خارج ہوتا ہے تو کس
خون کو وہ حیض شمار کرے گی اور کس کو استحاضہ مان کر نماز روزہ ترک نہیں
کرے گی، اس لئے کہ استحاضہ والی عورت کو طاہرہ (پاک) عورت کا حکم
حاصل ہے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لئے یہ جاننا ہو گا کہ مستحاضہ

(جس کو استحاضہ آتا ہے) کی تین حالتیں ہوتی ہیں:

پہلی حالت: استحاضہ میں بنتا ہونے سے پہلے عورت اپنی ماہواری کے ایام سے اچھی طرح واقف تھی بایس طور کے استحاضہ سے پہلے مہینہ کے شروع یا درمیان میں پانچ دن یا آٹھ دن علی سبیل المثال اس کو حیض آتا تھا، چنانچہ اس کو اپنے ایام حیض کی تعداد اور وقت دونوں معلوم تھے، اس طرح کی عورت اپنی عادت کے مطابق (انہی ایام اور اوقات میں) اپنے آپ کو حاضرہ تصور کرے گی (انہی ایام اور اوقات میں) نماز روزہ ترک کر دے گی، اس پر حیض کے تمام احکامات عائد ہوں گے، ان ایام کو مکمل کرنے کے بعد غسل کرے گی اور غسل کر کے نماز شروع کر دے گی، باقی خون استحاضہ کا خون سمجھا جائے گا، کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا:

(أُمُّكُثِيْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْسِلُكَ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْسِلِيْ وَ صَلِّيْ)

”انتہے دن تم ٹھہری رہو، جتنے دن تم کو تمہارا حیض رو کے رکھتا تھا، پھر غسل کر کے نماز ادا کرو“۔ (مسلم)

اور آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا:

(إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ

وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّيْ) (متفق علیہ)

”یہ ایک رگ ہے حیض نہیں ہے، جب تمہارا حیض آجائے تو نماز چھوڑ

دواور جب ختم ہو جائے تو اپنی شرمگاہ سے خون دھولو اور پھر نماز پڑھو۔“

دوسری حالت: اگر عورت کو اپنے حیض (ماہواری) کے ایام معلوم نہ ہوں

لیکن اس کے خون انتیازی اوصاف کے حامل ہوتے ہوں، بعض خون میں حیض

کے اوصاف پائے جاتے ہوں، بایس طور کہ سیاہ رنگ کا یا گاڑھا یا بدبودار ہو،

اور بقیہ خون میں حیض کے اوصاف نہ پائے جاتے ہوں، بایس طور کہ سرخ رنگ

کا ہو، یا بدبودار اور گاڑھا نہ ہو، اس طرح کی صورت حال میں جس خون کے

اندر حیض کی صفت پائی جائے گی اسے حیض شمار کیا جائے گا، لہذا عورت اس

مدت میں اپنے آپ کو حائضہ تصور کر کے نماز روزہ ترک کر دے گی، اس کے

علاوہ باقی خون کو استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا، جس خون میں حیض کی صفت

پائی جائے گی اس کے بند ہونے پر غسل طہارت کر کے عورت نماز شروع

کر دے گی، اور اپنے آپ کو پاک و صاف تصور کرے گی، رسول اکرم ﷺ نے

حضرت فاطمہ بنت ابی حمیش رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا:

(إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي

عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتوَضَّئِي وَصَلِّي)

”اگر حیض کا خون ہو گا تو وہ سیاہ معروف ہو گا، لہذا تم اس خون میں نماز

سے رک جاؤ، اور اگر اس کے برعکس دوسری طرح کا ہو تو تم وضو کر کے

نماز پڑھو۔ (اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی رجہما اللہ نے روایت کیا ہے۔ امام ابن حبان اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے)۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ استحاضہ والی عورت خون کے اوصاف کا اعتبار کر کے حیض و عدم حیض کے درمیان تفریق کرے گی۔

تیسرا حالت: یہ ہے کہ عورت کو اپنی ماہواری کے ایام کا پتہ ہی نہ ہو یعنی پہلے سے اس کی کوئی عادت ہی نہ ہو، اور خون میں بھی کوئی ایسا وصف نہ پایا جاتا ہو جس کے ذریعے حیض اور عدم حیض کے درمیان تفریق کر سکتی ہو، تو وہ حیض کی اکثر مدت ہر مہینہ میں چھ یا سات دن حیض کا شمار کرے گی، کیونکہ یہی بیشتر عورتوں کی عادت ہوتی ہے، آپ ﷺ نے حضرت حمہ بنت جحش رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا:

(إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةً أَيَّامٍ أَوْ سَبْعةً أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَصُومِيْ وَصَلِّيْ فَإِنْ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَ كَذَلِكَ فَاقْفُلِي كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ)

” یہ شیطان کی جانب سے ایک دھکا ہوتا ہے لہذا چھ دن یا سات دن

حیض کا ہے، اس کے بعد غسل کرو اور پاک صاف ہو جاؤ تو ۲۳ یا ۲۴ دن نماز پڑھو، روزہ رکھو اور نوافل پڑھو (یعنی اپنے آپ کو پاک تصور کرو) بلا شبہ یہی تمہارے لئے کافی ہے، ایسے ہی (ہر ماہ) تم کرو جس طرح عام عورتیں حیض میں ہوتی ہیں۔ (اس حدیث کو انہم خمسہ یعنی امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے)۔

سابقہ کلام کا حاصل یہ ہے کہ صاحب عادت اپنے معاملہ کو اپنی عادت پر محمول کرے گی (یعنی اپنی سابقہ عادت کے ذریعہ حیض و عدم حیض میں تفریق کرے گی) صاحب تمیز عورت حیض واستخاضہ کے خون میں تفریق و تمیز پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کرے گی، اور ایسی عورت جونہ تو صاحب عادت ہو اور نہ صاحب تمیز ہو وہ چھ یا سات دن (ہر مہینہ میں) حیض شمار کرے گی، اس طرح مستخاضہ عورت کے بارے میں نبی کریم ﷺ سے وارد تینوں قسم کی احادیث میں تطہیق ہو جاتی ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہم اللہ قم طراز ہیں:

”استخاضہ کی جو علامات بیان کی جاتی ہیں وہ چھ ہیں: یا تو عادت ہو گی اور یہی قوی ترین علامت ہے، کیونکہ اصلًا حیض کا پایا جانا ہے نہ کہ

کسی دوسری چیز کا، یا تمیز ہو گی، کیونکہ سیاہ گاڑھے بد بودار خون کا حیض ہونا زیادہ اقرب ہے بہ نسبت سرخ خون کے، یا عورتوں کی جو عموماً عادت ہوتی ہے اس کا اعتبار ہو گا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ کسی تہا فرد کو اکثریت والغلبیت کے ساتھ شامل کیا جائے، یہ تینوں علامات ایسی ہیں جن کا احادیث اور قیاس و تجربہ سے پتہ چلتا ہے۔

اس کے بعد موصوف رحمہ اللہ نے باقی تین علامتوں کو بیان کیا ہے اور اخیر میں لکھتے ہیں:

”اس سلسلے میں صحیح ترین قول یہی ہے کہ انہی علامتوں کا اعتبار کیا جائے جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں، ان کے علاوہ دیگر علامتوں کو لغو قرار دیا جائے گا۔“

☆ مستحاصہ کو ظاہر ماننے کی صورت میں کیا کرنا ہو گا؟

۱- سابقہ تفصیلات کے مطابق اعتبار کئے گئے حیض کے خاتمہ پر عورت پر غسل (طہارت) واجب ہو گا۔

۲- خارج ہونے والے خون کی صفائی کے لئے ہرنماز کے وقت اپنی شرمگاہ کو دھونے گی اور اس جگہ روئی وغیرہ رکھ کر بہنے والے خون کو روکے گی، اور روئی کو گرنے سے بچانے کے لئے کوئی چیز (لنگوٹ وغیرہ) باندھ

لے گی، پھر نماز کے وقت وضو کرے گی کیونکہ مستحاضہ عورت کے بارے میں

رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)

”جیسے کے ایام میں نماز ترک کر دے گی، پھر غسل (طہارت) کرے گی اور ہر نماز کے وقت وضو کرے گی۔“ (اس حدیث کو ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی حمیم اللہ نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے)

مزید آپ نے ارشاد فرمایا:

(أَنْعَثُ لَكِ الْكُرْسُفَ تَحْشِينَ بِهِ الْمَكَانَ)

”کرسف رکھنے کا طریقہ تم کو بتاتا ہوں، اس کے ذریعے اس جگہ (شرمنگاہ) کو بھر دو۔“

کرسف: روئی کو کہتے ہیں، اور آج کے زمانے میں پائے جانے والے پیڈز (Pads) جیسے کیفری care free کا استعمال بھی ممکن ہے۔

۳- نفاس اور اس کے مسائل:

نفاس: اس خون کو کہتے ہیں جو رحم مادر سے ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد خارج ہوتا ہے، درحقیقت وہ حمل کے وقت رحم میں رکے ہوئے خون کا بچا ہوا حصہ ہوتا ہے، ولادت کے بعد آہستہ آہستہ یہ بچا ہوا خون خارج ہوتا

ہے، ولادت سے پہلے جو خون آثار ولادت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے وہ نفاس ہی کا خون ہوتا ہے۔ فقہائے کرام نے ولادت سے پہلے دو یا تین دن کی قید لگائی ہے، عموماً نفاس کی ابتداء ولادت کے ساتھ ہوتی ہے، اور (ولادت کے سلسلے میں) اس ولادت کا اعتبار ہوگا جس میں انسان کی تخلیق نمایاں ہو جاتی ہے، اقل مدت جس میں انسان کی تخلیق واضح ہو جاتی ہے ۸۱ دن اور اکثر مدت تین مہینے ہے، اگر اس مدت سے پہلے کوئی چیز عورت سے ساقط ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خون بھی آ جاتا ہے تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، اس خون کی وجہ سے وہ نماز روزہ ترک نہیں کرے گی، کیونکہ یہ فاسد خون ہے، لہذا اس عورت کا حکم وہی ہوگا جو ایک مستحاضہ عورت کا ہوتا ہے۔

عموماً نفاس کی اکثر مدت ابتداء ولادت یا اس سے دو تین دن پہلے (جبیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے) سے چالیس دن ہے، ولیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں:

(كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَعْلَمُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا)

”نفاس والی عورتیں رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں چالیس دن (نفاس میں) بیٹھا کرتی تھیں“۔ (ترمذی وغیرہ)۔

امام ترمذی رحمہ اللہ وغیرہ کے بیان کے مطابق اس پر اہل علم کا اجماع

ہے۔ اگر چالیس دن سے پہلے عورت پاک ہو جائے بایں طور کہ خون آنا بند ہو جائے تو وہ غسل (طہارت) کر کے نماز شروع کر دے گی، اس کی اقل مدت کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی حد وارد نہیں ہوئی ہے، اور اگر چالیس دن مکمل ہو جائیں اور خون کا آنا بند نہ ہو تو اگر یہ اس کے حیض کی سابقہ عادت کے موافق ہو تو اسے حیض مانا جائے گا، اور اگر حیض کی سابقہ عادت کے مطابق نہ ہو اور خون کا سلسلہ برابر جاری ہو تو اسے استحاضہ کا خون تصور کیا جائے گا، اس خون کی وجہ سے چالیس دن کے بعد عبادت ترک نہیں کرے گی، اگر چالیس دن سے بڑھ جائے اور خون کا سلسلہ برابر جاری بھی نہ ہو اور حیض کی سابقہ عادت کے مطابق بھی نہ ہو تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔

☆ نفاس کے احکام: نفاس کے بھی وہی احکام ہیں جو حیض کے ہیں، ان

کو ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے:

- ۱- نفاس والی عورت سے وطی (جماع) حرام ہے جس طرح حائضہ سے حرام ہے، وطی کے علاوہ ہر طرح سے استمتاع (لطف اندوں ہونا) مباح ہے۔
- ۲- نفاس والی عورت کا حائضہ کی طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا حرام ہے۔

۳- قرآن کریم کا چھونا یا پڑھنا حرام ہے، اگر بھول جانے کا خدشہ لاحق ہو تو حائضہ کی طرح مصحف کو چھوئے بغیر قرآن کریم پڑھ سکتی ہے۔

۴- نفاس کی وجہ سے چھوٹے ہوئے فرض روزوں کی قضاء حائضہ کی طرح نفاس والی عورت پر بھی واجب ہے۔

۵- نفاس کے خاتمہ پر غسل (طہارت) واجب ہے جس طرح حائضہ پر حیض کے بعد غسل (طہارت) واجب ہے۔
دلائل:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”نفاس والی عورت رسول اللہ ﷺ کے عہد میں چالیس دن بیٹھا کرتی تھیں۔ (مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

شیخ مجد ابن تیمیہ رحمہ اللہ مُنشقی (۱۸۲/۱) میں لکھتے ہیں: ”میں کہتا ہوں: حدیث کے معنی ہیں نفاس والی عورت کو چالیس (دن) رات تک بیٹھنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ یہ معنی اس لئے کہ حدیث جھوٹی نہ ہو، کیونکہ کسی بھی ایک زمانہ کی عورتوں کا نفاس یا حیض میں متفق ہونا ناممکن ہے۔“

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کوئی چالیس (دن) رات تک نفاس میں بیٹھتی تھیں، نبی

کریم اللہ علیہ السلام حالت نفاس کی (چھوٹی ہوئی) نمازوں کی قضا کا انہیں حکم نہیں

دیتے تھے۔ (ابوداؤد)

فائدہ اول: نفاس کا خون اگر چالیس دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے اور عورت (طہارت کا) غسل کر کے نماز شروع کر دیتی ہے اس کے بعد چالیس دن سے پہلے دوبارہ خون آ جاتا ہے تو صحیح مسلک یہ ہے کہ اسے نفاس ہی کا خون سمجھا جائے گا، درمیان میں حاصل ہونے والے طہر (پاکی کے ایام) میں اس نے جو روزے رکھے تھے وہ صحیح ہونگے ان کی قضا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ملاحظہ ہو:

مجموع فتاویٰ الشیخ محمد بن ابراہیم (۱۰۲/۲) (۱) فتاویٰ الشیخ عبد العزیز بن بازمطبوع در مجلہ الدعوة (۲۳/۱) حاشیہ ابن قاسم علی شرح الزاد (۱/۳۰۵) الدمام الطبیعیہ للنساء (عورتوں کے طبعی خون) مؤلفہ محمد بن صالح العثیمین (ص ۵۵-۵۶) الفتاویٰ السعدیہ (ص ۱۳۷)۔

(۱) آپ کی عبارت یوں ہے ”وتقضى الصوم دون الصلاة“، (یعنی روزے کی قضا کرے گی نہ کہ نماز کی) یہ مجمل کلام ہے قضا کئے جانیوالے روزہ کی وضاحت اس میں نہیں ہے، آیا وہ روزہ مراد ہے جو اس نے درمیانی طہر میں رکھے تھے یا وہ روزہ ہے جو اس نے دوبارہ خون آ جانے کے بعد ترک کیا تھا۔ اور شاید یہی روزہ مقصود ہے۔

فائدہ دوم: شیخ عبدالرحمٰن بن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”سابقہ تمام تفصیلات سے واضح ہوا کہ نفاس کے خون کی علت ولادت ہے، استحاضہ کا خون بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایک عارضی اور وقتی خون ہے، اور حیض کا خون یہی اصلی خون ہے، واللہ اعلم،“ (ملاحظہ ہو: کتاب ارشاد اولی الابصار والالباب ص ۲۳)۔

☆ مانع حیض دواؤں کا استعمال:

مانع حیض دواؤں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ صحت کے لئے مضر نہ ہو، دوا استعمال کرنے کے بعد اگر حیض نہیں آتا تو عورت نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، طواف بھی کرے گی، اس کے اعمال عبادات اسی طرح صحیح اور درست ہوں گے جس طرح ایک پاک و ظاہر عورت کے صحیح اور درست ہوتے ہیں۔

☆ اسقاط حمل کا حکم:

اللہ تعالیٰ کے حکم سے حم میں جو حمل قرار پاتا ہے شرعی نقطہ نظر سے ایک مسلمان عورت اس کی امین اور محافظت ہوتی ہے، لہذا اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ﴾

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿البقرة: ٢٢٨﴾

”انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اسے وہ
چھپائیں اگر انہیں اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان ہے۔“

کسی بھی طریقہ اور وسیلہ سے اسے ساقط کرنے یا اس سے نجات حاصل
کرنے کی خاطر حیلہ بازی سے کام نہ لے، اگر حالت حمل میں روزہ اس کے
لئے باعث مشقت یا مضر ثابت ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے
میں اسے افطار کی رخصت اور اجازت مرحمت فرمائی ہے، موجودہ زمانہ میں
اسقاط حمل کا جور واج چل پڑا ہے دراصل یہ ایک حرام کام ہے، اگر حمل میں
روح پڑ گئی ہے اور اسقاط کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی تو یہ ایک ایسے نفس
کے قتل کے مترادف ہے جس کے ناحق قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے،
اس پر فوجداری قانون کے مطابق احکامات لاگو ہوں گے، مقدار دیت (خون
بہا) کی تفصیلات کی روشنی میں اس پر دیت واجب ہوگی، بعض ائمہ کے قول
کے مطابق کفارہ بھی واجب ہو گا، یعنی ایک مومن گردن (غلام) آزاد کرے،
اگر مومن گردن نہ پائے تو مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے۔

بعض اہل علم نے اس عمل کو مودودہ صغیری (چھوٹے پیانہ پر زندہ درگور
کرنا) مانا ہے، شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ اپنے مجموع فتاویٰ (۱۵۱/۱۱) میں

لکھتے ہیں: ”جب تک حمل کی موت متحقق (ثابت) نہ ہو جائے اس کو ساقط کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر موت متحقق ہو گئی ہو تو جائز ہے۔“

سعودی عرب کے کبار علماء بورڈ نے اپنے اجلاس نمبر ۱۳۰ بتاریخ /۲۰/۶/

۱۴۰۷ھ میں مندرجہ ذیل قرارداد پاس کی ہے:

۱- کسی بھی مرحلہ میں اسقاط حمل جائز نہیں ہے، البتہ شرعی وجہ جواز پائے جانے کی صورت میں وہ بھی نہایت محدود دائرہ میں حمل کا اسقاط جائز ہے۔

۲- اگر حمل ابتدائی مرحلے میں ہو یعنی چالیس دن کے اندر ہو اور اس مدت میں اسقاط کا سبب اولاد کی تعلیم و تربیت کی پریشانی اور مشقت کا خوف ہو، یا ان کے معاش اور تعلیم و تربیت کے اخراجات سے عجز و تہی دامنی کا خوف یا ان کے مستقبل کے خراب ہونے کا خدشہ ہو، یا زوجین اپنے موجودہ بال بچوں پر اکتفا کرنا چاہتے ہوں تو ان تمام صورتوں میں اسقاط حمل جائز نہیں ہے۔

۳- اگر حمل خون کا یا گوشت کا لوثرا ہو اس صورت میں بھی اسقاط حمل جائز نہیں ہے، البتہ کوئی قابل اعتماد طبی کمیٹی یہ فیصلہ کر دے کہ حمل کا برقرار رہنا ماں کی سلامتی کے لئے خطرہ بن سکتا ہے بایس طور کہ حمل کے باقی رہنے میں اس کی موت کا اندریشہ ہو تو خطرہ کے ازالہ کے لئے تمام وسائل و ذرائع کو

بروئے کارلانے (اور اس میں ناکامی) کے بعد اسقاط حمل جائز ہے۔

۳- تیسرے مرحلے کے بعد یعنی چار مہینے مکمل ہو جانے کے بعد حمل کا

اسقاط بالکل حرام ہے، البتہ قبل اعتقاد اسپیشلٹ ڈاکٹروں کی ٹیم یہ فیصلہ دیدے کہ جنین کا ماں کے پیٹ میں برقرار رہنا اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے تو اس کی زندگی بچانے کے لئے تمام وسائل و ذرائع اختیار کرنے کے بعد (ناکامی کی صورت میں) اسقاط حمل جائز ہے۔ مذکورہ شرائط کے ساتھ اسقاط حمل کے اقدام کی جواہارت دی گئی ہے وہ محض دو ضرر میں سے بڑے ضرر کو دور کرنے، اور دو مصلحتوں میں سے بڑی مصلحت کو حاصل کرنے کے لئے دی گئی ہے۔ اجلاس مذکورہ قرارداد کو پاس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اس معاملہ میں کافی احتیاط اور ثابت اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔

كتاب "الدماء الطبيعية للنساء" (عورتوں کے طبعی خون) مؤلفہ شیخ محمد بن العثیمین میں مذکور ہے: "اسقاط حمل سے اگر حمل ضائع کرنا مقصود ہے تو یہ عمل روح پھونک دیئے جانے کے بعد بلا شک وشبہ حرام ہے، کیونکہ یہ ایک حرام کردہ نفس کا ناحق قتل ہے جو کتاب و سنت اور اجماع سے حرام ہے"۔

(ص ۶۰)

امام ابن الجوزی اپنی کتاب ”احکام النساء“ (ص ۱۰۸-۱۰۹) میں لکھتے ہیں: ”جب نکاح کا مقصد طلب اولاد ہے اور ہر نطفہ سے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے لہذا حمل قرار پانے کے بعد مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اس لئے قصد احمل کا اسقاط مطلوبہ حکمت کی مخالفت ہے، ہاں اگر حمل ابتدائی مرحلے میں ہو تو روح ڈالے جانے سے پہلے اس کا اسقاط گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ وہ بھی آہستہ آہستہ بتدربن کمال و تمام کی جانب بڑھ رہا تھا، البتہ اس صورت میں بہ نسبت جان پڑ جانے کے بعد اسقاط حمل سے کم گناہ ہے کیونکہ جان پڑ جانے کے بعد بالقصد ایک مومن کی جان لینے کی مانند ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُعِلَتْ ☆ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ (التکویر: ۸، ۹)

”اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی؟“ -

لہذا ایک مسلمان عورت کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے اور کسی بھی مقصد کے پیش نظر اس جرم کا ارتکاب نہیں کرنا چاہئے، اور اس طرح کے گمراہ کن پروپیگنڈوں اور ناروا رسم و رواج سے جن کی بنیاد نہ تو عقل پر ہے اور نہ دین پر، فریب نہیں کھانا چاہئے۔

فصل چہارم

لباس اور پردے کے مسائل

الف- مسلم خاتون کا شرعی لباس اور اس کے اوصاف:

۱- ایک مسلمان عورت کے لباس کا کامل ہونا ضروری ہے جو نامحرم مردوں سے اس کے پورے جسم کو مکمل پردے میں چھپا کر رکھے، اور محرم لوگوں کے سامنے جسم کے صرف انہیں حصوں کو ظاہر کر سکتی ہے جن کے ظاہر کرنے کا عموماً رواج پایا جاتا ہے، یعنی وہ ان کے سامنے صرف اپنے چہرے، اپنی دونوں ہتھیلیوں اور قدموں کو ظاہر کر سکتی ہے۔

۲- لباس کا اس طرح ساتر ہونا ضروری ہے کہ جسم نظر نہ آئے، ایسا باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے سے عورت کی جلد کا رنگ ظاہر ہو۔

۳- ایسا تنگ اور چست نہ ہو کہ اس کے اعضاء کی ساخت نمایاں ہو، چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اکرم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
(صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرْ هُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ
يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ
رُءُ وَ سُهُنَ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةُ لَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يَجِدُنَ

رِيْحَهَا وَإِنْ رِيْحَهَا لَيُوَجِّدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَ كَذَا) (مسلم)-

”جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کے مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو بس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، مٹک مٹک کر، موئذھوں اور کولہوں کو ہلا ہلا کر چلیں گی، ان کے سراونٹ کے جھکے ہوئے کوہاں کی طرح ہوں گے، وہ نہ توجنت میں داخل ہوگی اور نہ ہی اس کی خوبیوں پائیں گی، حالانکہ اس کی خوبیوں تینی مسافت سے پائی جائے گی۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ (۱۳۶/۲۲) میں فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ کے ارشاد مبارک (کاسیات عاریات) کی ایک تفسیر یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ غیر ساتر لباس پہنے ہوں گی، (بظاہر) وہ لباس پہنے ہوں گی لیکن حقیقتاً ننگی ہوں گی، مثال کے طور پر وہ خواتین جو ایسا باریک لباس استعمال کرتی ہیں جس سے ان کی جلد حبلکتی ہے، یا ایسا تنگ لباس پہنچتی ہیں جو ان کے جسم کی ساخت اور جوڑ جوڑ یعنی پچھلے حصہ، بازوؤں وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے، حالانکہ عورت کا لباس ایسا موٹا اور کشادہ ہونا چاہئے جو اس کے لئے (مکمل طور پر) ساتر ہو، اس کے جسم کا کوئی حصہ ظاہرنہ ہو اور نہ اس کے

اعضاء کی ساخت نمایاں ہو۔

۴- لباس میں مردوں سے مشابہت نہ اختیار کرے، کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی اور ان کے طور طریقے کو اپنانے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، لباس میں مردوں سے مشابہت اختیار کرنے کی شکل یہ ہے کہ خواتین ایسے لباس اور کپڑے استعمال کریں اور پہنیں جو ہر معاشرہ کے اپنے عرف میں نوعیت اور صفات میں مردوں کے لئے مخصوص ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ (۱۳۸/۲۲-۱۳۹) میں لکھتے ہیں:

”مردوزن کے لباس میں فرق کا انحصار اس امر پر ہے کہ کون سا لباس مردوں کے لئے درست ہو سکتا ہے اور کس قسم کا لباس عورتوں کے حق میں مناسب ہو سکتا ہے، لہذا مرد جس چیز کے مامور ہیں اس کے مناسب لباس مردوں کا ہوگا، اور خواتین جس چیز کی مامور ہیں اس کے مطابق لباس عورتوں کا ہوگا، خواتین پرده اور پوشیدگی میں رہنے کی مامور ہیں، نہ کہ بے پردگی اور کھلے طور پر رہنے کی مامور ہیں، یہی وجہ ہے کہ اذان، تلبیہ میں آواز بلند کرنا، صفا و مروہ پر چڑھنا اور حالت احرام میں مردوں کی طرح کپڑوں سے مجرد ہونا عورتوں کے لئے مشروع نہیں ہے۔ (حالت احرام میں) مردوں کو سر کھلا رکھنے

اور معتاد لباس نہ پہننے کا حکم دیا گیا ہے، معتاد لباس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کپڑے جو انسانی جسم کے اعضاء کی ساخت کے مطابق سلے گئے ہوں، لہذا مرد نہ تو تمیص پہن سکتے ہیں اور نہ پائچا مہ اور نہ ہی بنس (ایسا لباس جس میں سر کو ڈھانکنے کے لئے ٹوپی بھی لگی ہوتی ہو) اور نہ ہی موزے۔

مزید لکھتے ہیں: ”لیکن عورت کو کسی لباس سے منع نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اسے پردہ اور حجاب کا پابند بنایا گیا ہے، لہذا اس کے لئے کوئی ایسی چیز نہیں مشروع کی گئی ہے جو حجاب اور پردہ کے مقابلہ ہو، ہاں نقاب لگانے اور دستانہ پہننے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایسا لباس ہے جو عضو کی ساخت کے مطابق بنایا گیا ہے اور عورت کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

اس کے بعد یہ ذکر کرتے ہوئے کہ محروم عورت اپنے چہرہ کو مردوں سے نقاب کے علاوہ کسی دوسری چیز سے چھپائے رکھے گی، اخیر میں لکھتے ہیں: ”جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مردوں اور عورتوں کے لباس میں فرق ضروری ہے جس کے ذریعہ مرد و زن میں تمیز کی جاسکے، اور یہ کہ عورتوں کے لباس میں اتنا حجاب اور پردہ ہو کہ اس سے مقصود حاصل ہو جائے تو اس باب میں اصل بات بھی واضح ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ ایسا لباس جس کو غالباً مرد ہی پہنتے ہیں وہ عورت کے لئے منوع ہو گا۔“

آگے مزید لکھتے ہیں : ”لباس میں بے پرڈگی اور مردوں سے مشابہت دونوں ہی جمع ہو جائیں تو دونوں اعتبار سے وہ لباس خواتین کے حق میں ممنوع ہو گا۔“

۵- لباس میں ایسی زیب وزینت نہ ہو کہ گھر سے باہر نکلتے وقت عورت مردوں کی توجہ کا مرکز بن جائے، اور اس کی وجہ سے اس کا شمار اجنبی مردوں کے سامنے اپنی زیب وزینت کا اظہار کرنے والی بے حیا عورتوں میں نہ ہو۔

ب- حجاب (پرداہ) :

حجاب کے معنی ہیں عورت نامحرم لوگوں سے اپنے پورے جسم کو پردے میں رکھے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَلَا يُعِدِّنَ زِينَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيُضَرِّبَنَ بِخُمُرٍ هِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَ وَلَا يُعِدِّنَ زِينَتَهُنَ إِلَّا لِيُعَوَّلَتِهِنَ أَوْ آبَائِهِنَ أَوْ آبَاءَ بُعْلَيَهِنَ أَوْ أَبْنَائِهِنَ أَوْ أَبْنَاءَ بُعْلَتِهِنَ أَوْ إِخْوَانِهِنَ﴾ (النور: ۳۱)

”اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے اور اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے، یا اپنے والد کے، یا اپنے خسر کے، یا اپنے لڑکوں کے، یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، یا اپنے بھائیوں کے۔“

اور ارشادربانی ہے:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ (الاحزاب: ۵۳)

”جب تم نبی ﷺ کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچے سے طلب کرو۔“

(آیت میں) حجاب سے مراد ایسی دیوار یا دروازہ یا لباس ہے جو عورت کو پردے میں رکھے، آیت اگر چہ ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کا حکم تمام مومنات کو عام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی علت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقْلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (الاحزاب: ۵۳)

”تمہارے اور ان کے دلوں کے لئے کامل پاکیزگی یہی ہے۔“
یہ ایک عام علت ہے، لہذا علت کا عموم حکم کے عموم کی دلیل ہے۔ ارشادربانی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زَوْاجٌ لَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ

مِنْ جَلَانِيهِنَّ﴾ (الاحزاب: ۵۹)

”اے نبی! اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجھوں الفتاویٰ (۱۱۰-۱۱۱/۲۲) میں
رقطراز ہیں:

” (آیت کریمہ میں وارد لفظ) جلباب کے معنی ہیں دو ہری چادر جس کو
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل علم رداء (چادر) اور عوام ازار کہتے
ہیں، حقیقتاً جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سر سمیت عورت کے پورے
بدن کو ڈھانپ لے۔ ابو عبیدہ وغیرہ کا بیان ہے کہ اسے اپنے سر کے اوپر اس
طرح ڈال لے گی کہ سوائے آنکھ کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، اسی قبیل سے
نقاب بھی ہے۔“

نامحرم لوگوں کے سامنے عورت کا اپنے چہرہ کو چھپانا بھی ضروری ہے، سنت
سے اس کے وجوب پر متعدد دلائل ہیں جن میں سے ایک دلیل حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بھی ہے، وہ فرماتی ہیں:

(كَانَ الرُّكْبَانُ يَمْرُونَ بِنَا وَ نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِماتٌ فَإِذَا
حَادَوَا بِنَا سَدَّلْتُ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا
جَاءَوْزَنَا كَشْفَنَا) (احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ)

”سواروں کا قافلہ ہم سے گذرتا اور ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حالت
احرام میں ہوتی تھیں، تو جب وہ ہمارے بالکل بال مقابل ہو جاتے تو ہم

میں سے ہر ایک اپنے جلباب (چادر) کو سر سے اپنے چہرہ پر ڈال لیتی،
اور جب وہ آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنے چہروں کو کھول لیتے تھے۔

نامحرم لوگوں کے سامنے چہرہ چھپانے کے وجوب پر کتاب و سنت میں
بیشمار دلیلیں ہیں، اس سلسلے میں اپنی اسلامی بہنوں کو مندرجہ ذیل کتابوں کے
مطالعہ کا مشورہ دیتا ہوں:

- رسالت الحجاب واللباس فی الصلاۃ مؤلفہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔
- رسالت الحجاب مؤلفہ شیخ عبدالعزیز بن عبد اللہ بن باز۔
- رسالت الصارم المشهور علی المفتونین بالسفرور مؤلفہ شیخ حمود بن عبد اللہ تویجری۔
- رسالت الحجاب مؤلفہ شیخ محمد بن صالح العثیمین۔

ان تمام کتابوں میں متعلقہ موضوع پر کافی و شافی بحث کی گئی ہے۔ اسلامی
بہنوں کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ جن علماء نے چہرہ کو کھلا رکھنے کی اجازت دی
ہے باوجودیکہ ان کا قول مرجوح ہے انہوں نے اس اجازت کو شر و فساد سے
امن و سلامتی کے ساتھ مقید کیا ہے، اور صورت حال یہ ہے کہ پورا معاشرہ فتنہ
وفساد سے غیر محفوظ ہے خصوصاً آج کے دور میں جبکہ خواتین اور مردوں میں
دینی لگام باقی نہیں رہ گئی ہے، شرم و حیا کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، فتنہ و فساد کی

دعوت دینے والوں کی کثرت ہے، شر و فساد کو ہوا دینے والے مختلف قسم کے زیورات سے اپنے چہروں کو آراستہ کرنے کی خواتین شوقین ہوتی جا رہی ہیں۔

لہذا اسلامی بہنوں کو ان تمام امور سے پرہیز کرنا چاہئے اور پردے کا التزام کرنا چاہئے، ان شاء اللہ یہ انہیں ہر طرح کے فتنہ اور شر سے محفوظ و مامون رکھے گا، سلف و خلف میں سے کسی بھی معتبر عالم نے فتنوں کی شکار ان خواتین کے لئے ان امور کی قطعی اجازت نہیں دی ہے جن میں وہ گرفتار ہیں۔ بہت سی مسلمان عورتیں پردہ کے بارے میں نفاق سے کام لیتے ہوئے جب وہ کسی ایسی سوسائٹی میں ہوتی ہیں جہاں پردہ کا التزام کیا جاتا ہے تو پردہ کرتی ہیں، اور جب کسی ایسی سوسائٹی میں جاتی ہیں جہاں پردہ کا التزام نہیں کیا جاتا ہے تو پردہ سے باہر ہو جاتی ہیں۔

اور بہت سی ایسی بھی ہیں جو عام جگہوں پر تو پردہ کرتی ہیں، مگر جب وہ دوکانوں یا اسپتالوں میں داخل ہوتی ہیں یا کسی جو ہری (سنار) یا لیڈز ٹیلر سے گفتگو کرتی ہیں تو اپنے چہروں اور بازوں کو اس طرح کھول دیتی ہیں گویا اپنے شوہروں یا اپنے محروم لوگوں کے پاس ہیں، ایسی خواتین کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے، یہود ملک سے آنسو والی بہت سی عورتوں کو جہازوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ بے پردہ ہوتی ہیں اور اس ملک (سعودی عرب) کے کسی ایر پورٹ

پر جہاز کے اترتے ہی نقاب اوڑھ لیتی ہیں گویا ان کی نظر میں پردے کا تعلق
عادات اور رسم و رواج سے ہے یہ کوئی دینی حکم نہیں ہے۔

اسلامی بہنوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ پردہ انہیں ان زہرآلود نگاہوں سے
تحفظ فراہم کرتا ہے جو بیمار دلوں اور انسان نما کتوں سے صادر ہوتی ہیں اور ان
سے ہیجان انگیز حرص و طمع کا ربط و تعلق کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ لہذا اسلامی بہنوں
کو پردہ کا التزام کرنا چاہئے اور ان باطل پروپیگنڈوں پر کوئی توجہ نہیں دینی
چاہئے جو پردہ کی مخالفت میں یا پردہ کی اہمیت کم کرنے کے لئے کئے جاتے
ہیں، کیونکہ یہ عورتوں کے حق میں خیرخواہ نہیں بلکہ بدخواہ ہیں، اللہ رب العزت
کا ارشاد ہے:

﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبَعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ٢٧)

”اور جو لوگ خواہشات نفس کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم مکمل
طریقے سے جھک جاؤ۔“

فصل پنجم

نماز سے متعلق عورتوں کے مخصوص مسائل

ہر مسلمان عورت پر پنجوقہ نمازان کے متعینہ اوقات میں شرائط، اركان اور واجبات کی مکمل رعایت کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ ادا کرنا لازم ہے، اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِنَ الرِّزْكَاهَ وَأَطْعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (الاحزاب: ۳۳)

”اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔“

یہ حکم تمام مسلمان عورتوں کے لئے عام ہے، نماز اسلام کا دوسرا رکن اور دین کا ایک اہم ستون ہے، نماز کا ترک کرنا ایسا کفر یہ عمل ہے جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، نماز نہ پڑھنے والے مرد و زن کے نہ تو دین کا کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی اسلام کا، عذر شرعی کے بغیر نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرنا اس کو ضائع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيْنًا إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ (مریم: ۵۹، ۶۰)

”پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سوان کا نقصان ان کے آگے آئے گا، بجز ان کے جو توبہ کر لیں۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ائمہ تفسیر کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ اجماع صلاۃ سے مراد نماز کے اوقات کو ضائع کرنا ہے، باس طور کہ نماز کو اس کا وقت نکل جانے کے بعد ادا کیا جائے، اور لفظ ”غی“ جس کے بارے بتلایا گیا ہے کہ نمازوں کو ضائع کرنے والے اسے پائیں گے، اس کی تفسیر خسارہ اور نقصان سے کی ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ جہنم میں ایک وادی ہے۔ نماز کے تعلق سے خواتین کے مردوں سے الگ کچھ مخصوص احکام ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱- عورتوں پر نہ تو اذان ہے اور نہ اقامت، کیونکہ اذان بلند آواز سے کہنی مشروع ہے، اور عورتوں کے لئے آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اذان اور اقامت عورتوں کے لئے درست نہیں ہیں۔ المغنی (۶۸/۲)

میں علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں کسی اختلاف کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔

۲- نماز میں عورت سوائے چہرہ کے اپنے آپ کو مکمل طور پر چھپائے گی،

ہتھیلیوں اور قدموں کے بارے میں اختلاف ہے، اور یہ اس صورت میں جبکہ کسی غیر محرم شخص کی نظر اس پر نہ پڑ رہی ہو، اور اگر کوئی غیر محرم شخص اسے دیکھ رہا ہے تو مکمل طور پر ستر پوشی ضروری ہے جس طرح خارج نماز میں پرداہ کرنا ضروری ہے۔ نماز میں عورت کو اپنا سر، گردان، جسم کے تمام حصوں کو یہاں تک کہ پیر کی پشت کو بھی چھپانا ضروری ہے، ارشادِ نبوی ہے:

(لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَاتَةً حَائِضٍ -يَعْنِي مَنْ بَلَغَتِ الْحَيْضَ - إِلَّا بِعِصَمٍ)
”اللَّهُ تَعَالَى حَائِضَه سے لیعنی اس عورت سے جو حیض کی عمر کو پہنچ چکی ہے بغیر خمار کے نماز قبول نہیں کرتا ہے۔“ (ائمه خمسہ یعنی احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے)۔

حدیث میں مذکور لفظ (خمار) سے مراد سر اور گردان کو چھپانے والی چادر ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے رسول اکرم ﷺ سے دریافت کیا کہ: کیا عورت قیص اور دوپٹہ میں بغیر ازار کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا:

(إِذَا كَانَ الدُّرْعُ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا)
”اگر قیص اتنی طویل ہو کہ عورت کے دونوں پیروں کی پشت کو ڈھانپ

لے، (تو بغیر ازار کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے)۔

اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، ائمہ کرام نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح کہا ہے۔

دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نماز میں عورت کے لئے سر اور گردان کا چھپانا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے، اور جسم کے بقیہ تمام حصوں کو بہاں تک کہ پیروں کی پشت کو بھی چھپانا ضروری ہے جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں مذکور ہے، چہرہ کا کھلا رکھنا مباح ہے، بشرطیکہ کوئی اجنبی شخص اسے نہ دیکھ رہا ہو، اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ (۱۱۳-۲۲/۱۱۳) میں لکھتے ہیں: ”اگر عورت تنہا نماز پڑھ رہی ہو پھر بھی اسے دو پٹہ اوڑھنے کا حکم ہے، خارج نماز میں گھر کے اندر عورت اپنا سر کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن نماز میں زینت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، چنانچہ کسی کے لئے خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرنا جائز نہیں خواہ تنہا رات کے وقت طواف کر رہا ہو، اور نہ ننگے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے خواہ تنہا ہی کیوں نہ ہو۔“

مزید تحریر کرتے ہیں: ”نماز میں چھپائے جانے والے جسمانی اعضاء کا

ربط تعلق ان اعضاء سے نہیں ہے جن کو نگاہوں سے چھپایا جاتا ہے، نہ تو
قاعدہ مطرده کے طور پر نہ ہی مفہوم مخالف کے طور پر۔

امغنی (۲/۳۸) میں مذکور ہے: ”نماز میں آزاد عورت کے پورے جسم کی
ستر پوشی ضروری ہے، اگر کوئی حصہ کھلا رہ گیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، ہاں
اگر بہت مختصر حصہ کھلا رہ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہی مسلک امام
مالک، امام اوزاعی اور امام شافعی رحمہم اللہ کا ہے۔“

۳۔ امغنی (۲/۲۵۸) میں مذکور ہے: ”عورت رکوع اور سجود میں اپنے
آپ کو خوب پھیلا کر رکھنے کی بجائے سمیٹ کر رکھے گی، چار زانو ہو کر بیٹھے
گی، تو رک کرنے اور ایک پیر کو بچھا کر بیٹھنے کی بجائے دونوں پیروں کو لٹا کر
دہنی جانب انہیں نکال دے گی کیونکہ یہی اس کے حق میں زیادہ ساتر ہے۔
امام نووی رحمہ اللہ الجمیع (۳/۲۵۵) میں لکھتے ہیں: امام شافعی رحمہ اللہ نے
مختصر میں فرمایا ہے: اعمال نماز میں مرد وزن کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے،
سوائے اس کے کہ عورت کے لئے مستحب یہ ہے کہ سجدہ میں وہ اپنے آپ کو
سمیٹ کر، یا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے چپکا کر حتی الامکان اپنے آپ کو
زیادہ سے زیادہ پرده میں رکھے گی، میں عورت کے لئے اسی چیز کو رکوع میں
اور پوری نماز میں پسند کرتا ہوں۔“

۴۔ کسی عورت کی امامت میں جماعت کے ساتھ عورتوں کے نماز ادا کرنے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، بعض اہل علم منع کرتے ہیں اور بعض دوسرے جواز کے قائل ہیں، پیشتر علماء کا مسلک یہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اہل خاندان کی امامت کا حکم دیا تھا (اس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے)۔

بعض اہل علم نے اس کو غیر مستحب عمل کہا ہے، جبکہ بعض دوسرے اہل علم اس کی کراہت کے قائل ہیں اور بعض دیگر اہل علم فرض نماز کی بجائے نفل نماز میں اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور شاید راجح قول یہی ہے کہ یہ مستحب ہے، مزید تفصیل کے لئے المغنی لابن قدامہ (۲۰۲/۲) الجموع للنحوی (۸۲/۳-۸۵) کا مراجعہ مفید ہوگا۔

عورت بالجھر قراءت کرے گی بشرطیکہ غیر محرم اس کی قراءت کو نہ سن رہے ہوں۔

۵۔ مساجد میں مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کے لئے خواتین کا گھر سے نکلنا مباح ہے لیکن گھروں کے اندر نماز ادا کرنا ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ رسول

اکرم ﷺ کا فرمان مبارک ہے:

(لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ)

”اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو۔

دوسری روایت میں ہے:

(لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَيُبُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ)

”عورتوں کو مساجد جانے سے نہ روکو، اور ان کے گھر ان کے لئے زیادہ بہتر ہیں۔“ (احمد و ابو داؤد)۔

لہذا ان کا گھروں میں رہ کر نماز ادا کرنا پرده اور حجاب کی وجہ سے ان کے لئے زیادہ بہتر ہے، اگر نماز کی ادائیگی کے لئے مسجد جاتی ہیں تو ان کے لئے مندرجہ ذیل آداب کی پابندی ضروری ہے:

☆ مکمل پرده کے ساتھ اور کپڑوں میں اچھی طرح چھپ چھپا کر نکلا ضروری ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

(كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُنَ مُتَلَّفِعَاتٍ

بِمُرْوُطِهِنَّ مَا يُعْرَفُنَ مِنَ الْغَلَسِ) (متفق عليه)

”رسول اکرم ﷺ کے ساتھ خواتین (نجر کی) نماز ادا کرتی تھیں، پھر اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی واپس ہوتی تھیں، تاریکی کی وجہ سے پہچانی

نہیں جاتی تھیں۔

☆ کسی قسم کی خوشبو لگائے بغیر مسجد کے لئے نکلیں گی، حدیث نبوی ہے:

(لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيُخْرُجُنَ تَفَلَّاتٍ)

”اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو، اور چاہئے کہ وہ خوشبو لگائے بغیر نکلیں۔“ (احمد و ابو داؤد)۔

حدیث میں مذکور لفظ (تفلات) کے معنی ہیں: خوشبو استعمال کئے بغیر۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

(أَيُّمَا امْرَأَةٌ أَصَابَتْ بَعْحُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَّا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ)

”جس عورت نے خوشبو لگا رکھی ہو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شریک نہ ہو۔“ (مسلم، ابو داؤد، نسائی)۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی روایت کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

(إِذَا شَهِدْتُ إِحْدَى كُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِينًا)

”تم میں سے کوئی عورت اگر مسجد جانا چاہتی ہو تو خوشبو نہ استعمال کرے۔“

امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار (۱۳۰-۱۳۱) میں لکھتے ہیں:

”اس حدیث سے خواتین کے مسجد جانے کا پتہ چلتا ہے، لیکن عورتوں کے جانے کا جواز اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ ان کے مسجد جانے میں کسی قسم کا شر و فساد، یا خوشبو جیسی کوئی فتنہ کو بھڑکانے والی چیز نہ پائی جاتی ہو۔“

مزید لکھتے ہیں: ”تمام احادیث کا حاصل یہی ہے کہ خواتین کو مسجد جانے کی اجازت مردوں کی جانب سے اسی صورت میں ملنی چاہئے جبکہ ان کے مسجد جانے میں خوشبو، زیورات، یا کوئی دوسری زیب وزیانت جیسی فتنہ انگیز چیز نہ پائی جاتی ہو۔“

☆ کپڑوں اور زیورات میں بن سنور کرنہیں نکلیں گی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

(لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَى مِنَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْنَا لَمْنَعْهُنَّ مِنَ
الْمَسْجِدِ كَمَا مَنَعْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَ هَا)

”اگر رسول اللہ ﷺ خواتین کی اس حالت کا مشاہدہ فرماتے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں تو انہیں مسجد سے روک دیتے جس طرح بنو اسرائیل نے اپنی عورتوں کو روک دیا تھا۔“ (تفقیح علیہ)۔

امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار (حوالہ مذکور) میں حضرت عائشہ رضی اللہ

عنہا کے قول کی تشریع کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”لَوْ رَأَىٰ مَا رَأَيْنَا“ یعنی: اگر آپ ﷺ حسین و جمیل لباس، خوشبو، زیب و زینت اور بے پردگی کا مشاہدہ کرتے جن کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پہلے خواتین موٹے کپڑوں، کمبلوں اور دیز چادروں میں نکلا کرتی تھیں۔

امام ابن الجوزی رحمہ اللہ أحکام النساء (ص ۳۹) میں لکھتے ہیں:

”عورت کے لئے یہی مناسب ہے کہ باہر نکلنے سے حتی الامکان پرہیز کرے کیونکہ وہ اپنے طور پر کسی فتنہ اور شر سے محفوظ رہ سکتی ہے لیکن دوسرے لوگ اسی فتنہ و فساد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ان کے محفوظ و مامون رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اگر اسے مجبوراً باہر نکلنے کی ضرورت پیش آجائے تو اپنے خاوند کی اجازت سے بناؤ سٹکھار کے بغیر مکمل سادگی کے ساتھ نکلے، عام شاہرا ہوں اور بازاروں کو چھوڑ کر خالی جگہوں کو اپنا راستہ بنائے، اپنی آواز سنانے سے پرہیز کرے، نقچ راستوں کو چھوڑ کر کنارے چلنے کی کوشش کرے۔“

☆ عورت اگر اکیلی ہے تو مردوں کے پیچھے تنہ کھڑی ہو گی، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی تو میں اور ایک بیتیم (ہم دونوں) آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور بڑھیا عورت ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ (اسے بخاری،

مسلم، ابو داؤد، ترمذی اورنسائی نے روایت کیا ہے)۔

اور انہی سے مروی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں نبی ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھی تو میں اور ایک یتیم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ہماری ماں ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ (صحیح بخاری)

اور اگر عورتیں ایک سے زیادہ ہیں تو وہ مردوں کے پیچھے صاف یا (حسب ضرورت) چند صفات بنانے کے لئے کھڑی ہوں گی کیونکہ نبی ﷺ مردوں کو بچوں کے آگے کھڑا کرتے تھے، پھر بچوں کو اور بچوں کے بعد عورتوں کو۔ (مسند احمد)۔

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا:

(خَيْرٌ صُفُوفٍ الرِّجَالٌ أَوْلُهَا وَ شَرُّهَا آخِرُهَا وَ خَيْرٌ صُفُوفٍ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَ شَرُّهَا أَوْلُهَا) (اسے مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے)۔

”مردوں کے لئے سب سے بہتر صاف پہلی صاف ہے اور سب سے خراب آخری صاف، اور عورتوں کے لئے سب سے بہتر صاف آخری صاف ہے اور سب سے خراب پہلی صاف“۔

مذکورہ بالا دونوں حدیثیں اس امر کی دلیل ہیں کہ نماز کے لئے عورتیں مردوں کے پیچھے صاف بنانے کے لئے کھڑی ہوں گی، الگ الگ نہیں کھڑی ہوں گی، چاہے

وہ فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو۔

☆ دوران نماز اگر امام سے بھول ہو جائے تو عورت ہاتھوں سے تالی بجا کر اسے متنبہ کر سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا اشاد ہے:

(إِذَا نَابَكُمْ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ)

”جب تمہیں نماز کے دوران کوئی بات پیش آجائے تو (امام کو آگاہ کرنے کے لئے) مرد سچان اللہ کہیں اور عورتیں تالی بجا کئیں“ - اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔

اس حدیث میں عورت کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر دوران نماز کوئی بات پیش آجائے تو وہ تالی بجا کر آگاہ کر دے، اور امام کا بھولنا بھی اسی قبل سے ہے، عورت کو زبان سے کچھ کہنے کے بجائے تالی بجانے کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کی آواز مردوں کی لئے فتنہ کا باعث بن سکتی ہے۔

☆ امام کے سلام پھیرنے کے بعد عورتوں کو مسجد سے نکلنے میں جلدی کرنی چاہئے اور مردوں کو تھوڑی دیر تھہرے رہنا چاہئے، تاکہ مسجد سے نکلنے والی عورتوں سے ان کی مدد بھیڑ نہ ہو، اور اس کی دلیل ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ عورتیں فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد (فوراً) کھڑی ہو جاتی تھیں اور رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے

والے مرد اپنی اپنی جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھے رہتے، پھر جب رسول اللہ ﷺ اسے اٹھتے تو دوسرا لوگ بھی اٹھ جاتے۔

زہری کہتے ہیں: ہمارا خیال - واللہ اعلم - یہ ہے کہ آپ ﷺ اسے اس لئے کرتے تھے تاکہ جو عورتیں مسجد سے لوٹنا چاہیں وہ لوٹ جائیں۔ [اسے بخاری نے روایت کیا ہے (دیکھئے الشرح الکبیر علی المقنع (۱/۳۲۲)]

امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار (۲/۳۲۶) میں لکھتے ہیں:

”مذکورہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام وقت (خلیفہ یا سلطان) کے لئے مستحب ہے کہ رعایا کے احوال کا خیال رکھے، اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محترمات اور ممنوعات کی جانب لے جانے والے امور اور شک و شبہ کی جگہوں سے احتیاط مرتضیٰ چاہئے، اور یہ کہ عام گذرگاہوں میں بھی مردوزن کا اختلاط مکروہ ہے چہ جائیکے گھروں میں۔“

امام نووی رحمہ اللہ اکبر مجموع (۳/۲۵۵) میں لکھتے ہیں:

”باجماعت نماز کی ادائیگی میں خواتین مردوں سے چند امور میں مختلف ہوتی ہیں:

اول: خواتین کے حق میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس طرح مؤکد نہیں ہے جس طرح مردوں کے حق میں ہے۔

دوم: خواتین کی امام در میان صاف میں کھڑی ہوگی۔
سوم: تنہا عورت مردوں کے پیچے کھڑی ہوگی نہ کہ بغل میں، برخلاف
مردوں کے۔

چہارم: جب مردوں کے ساتھ صاف لگا کر نماز ادا کریں گی تو ان کی سب
سے آخری صاف اپنی پہلی صاف کی بہ نسبت زیادہ فضیلت کی حامل ہوگی۔
سابقہ سطور سے واضح ہو گیا کہ مرد و زن کے درمیان اختلاط ہر حالت میں
حرام ہے۔

۶۔ خواتین نماز عید کے لئے نکل سکتی ہیں، چنانچہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ
عنہا سے مردی ہے، فرماتی ہیں:

(أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ تُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ
وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلُنَ الصَّلَاةَ - وَفِي لَفْظِ
الْمُصَلَّى - وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ)

”رسول اکرم ﷺ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم بڑھیوں، حیض والیوں اور
پردہ نشینوں کو عید و بقر عید کے روز عید گاہ لے جائیں، حیض والی عورتیں نماز
دوسری روایت میں ہے: عید گاہ سے دور رہیں گی، البتہ خیر و برکت اور
مسلمانوں کی دعاوں میں شرکیک رہیں گی۔“ (اس حدیث کو اصحاب کتب ستہ اور امام احمد نے

روایت کیا ہے)۔

امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”مذکورہ حدیث اور اس معنی کی دیگر احادیث سے عیدین میں خواتین کے عید گاہ جانے کی مشروعیت کا قطعی طور پر پتہ چلتا ہے، چنانچہ شادی شدہ، غیر شادی شدہ، نوجوان، بوڑھی، حائضہ وغیر حائضہ کے درمیان بلا کسی امتیاز و تفریق کے تمام عورتوں کا عید گاہ جانا مشروع ہے، البتہ ایسی خواتین جو عدت میں ہوں یا جن کا عید گاہ جانا باعث شر و فساد ہو یا جن کے لئے کوئی عذر شرعی ہو وہ عید گاہ نہیں جائیں گی۔“

(نیل الاوطار/۳۰۶)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ (۲/۶ ۲۵۸-۲۵۹) میں تحریر کرتے ہیں: ”رسول اکرم ﷺ نے یہ بتلا دیا کہ خواتین کا گھروں کے اندر نماز ادا کرنا جمعہ یا جماعت میں شریک ہونے کی بہ نسبت زیادہ بہتر ہے سوائے نماز عید کے، کیونکہ نماز عید کے لئے آپ ﷺ نے نکلنے کا حکم دیا ہے، شاید اس کے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانے والا ہے۔ چند اسباب ہیں:
پہلا سبب: سال بھر میں صرف دو مرتبہ عید کا موقع آتا ہے لہذا جمعہ اور جماعت کے برخلاف عیدین میں ان کا نکنا قابل قبول ہے۔
دوسرा سبب: جمعہ اور جماعت کے برعکس نماز عیدین کا کوئی تبادل نہیں

ہے، چنانچہ عورت کا اپنے گھر کے اندر رہ کر نماز ظہر ادا کرنا ہی اس کا جمعہ ہے۔
تمیرا سبب: عیدین میں اللہ تعالیٰ کے ذکر واذکار کیلئے جنگل اور بیابانوں
میں نکلا ہوتا ہے جو بعض پہلوؤں سے حج کے مشابہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ
حجاج کرام کی موافقت میں عید اکبر (بقر عید) موسم حج میں رکھی گئی ہے۔

شوافع کے یہاں نماز عیدین میں عورتوں کے نکلنے کے لئے ان کے حسین
جبیل نہ ہونے کی قید ہے، چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ الْجَمِيع (۱۳/۵) میں لکھتے
ہیں: ”امام شافعی اور آپ کے تلامذہ (رحمہم اللہ) کا قول ہے کہ: نماز عیدین
میں شرکت ایسی عورتوں کے لئے مستحب ہے جو حسن و جمال والی نہیں ہیں،
خوبصورت عورتوں کا عیدین میں شرکیک ہونا مکروہ ہے۔“

آگے مزید لکھتے ہیں: ”خواتین نماز عیدین کے لئے پرانے اور بوسیدہ
کپڑے پہن کر نکلیں گی، ایسے لباس نہیں پہنیں گی جن سے ان کی نمائش ہو،
سادہ پانی سے غسل کرنا ان کے لئے مستحب ہے، خوشبو وغیرہ کا استعمال مکروہ
ہے، یہ سارے احکامات ایسی بوڑھی اور ضعیف عورتوں کے لئے ہیں جو ناقابل
اشتہرا اور غیر مرغوب ہیں، نوجوان خوبصورت اور مرغوب فیہ عورتوں کا عید گاہ
جانا مکروہ ہے، کیونکہ ان کے جانے میں خود ان کے یا ان کی وجہ سے دوسروں
کے فتنہ و فساد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔

اگر اعتراض کیا جائے کہ یہ بات حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ حدیث کی مخالف ہے، تو ہم کہیں گے صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث وارد ہے:

(لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ النِّسَاءَ لَمَنَعُهُنَّ كَمَا مُنِعْتُ

نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ)

”اگر رسول اکرم ﷺ ان امور کا مشاہدہ کرتے جن کو (آج کی) عورتوں نے ایجاد کر رکھا ہے تو ان کو (مسجد سے) روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں۔“

اور زمانہ اول کے برخلاف موجودہ زمانہ میں شر و فساد اور فتنوں کے اسباب بے شمار ہیں، واللہ اعلم“۔

میں (مؤلف) کہتا ہوں ہمارے زمانہ میں صورتحال کہیں زیادہ ابتر ہے۔

امام ابن الجوزی ”احکام النساء“ (ص ۳۸) میں فرماتے ہیں:

”میں کہتا ہوں: یہ ہم بیان کر آئے ہیں کہ خواتین کا نکنا جائز اور مباح ہے، لیکن خود ان کے یا ان کے ذریعے دوسروں کے شر و فساد اور فتنوں میں واقع ہونے کا خوف ہوتا نہ نکنا ہی افضل ہے، کیونکہ صدر اول کی خواتین اس کے بالکل برعکس ہوتی تھیں جس طرح آج کی خواتین کی پرورش اور تربیت

ہوتی ہے، یہی حال مردوں کا بھی تھا،۔ یعنی ان کے اندر حد درجہ زہد و درع پایا جاتا تھا۔

اسلامی بہنوں کو سابقہ سطور میں نقل کی گئی باتوں سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ شرعی اعتبار سے نماز عید کے لئے ان کا عید گاہ جانا جائز ہے بشرطیکہ پرده کا التزام ہو، اور مکمل حشمت و عصمت کے ساتھ نکلا جائے، اور اللہ رب العزت کا تقرب، مسلمانوں کے ساتھ ان کی دعاؤں میں شرکت اور اسلامی شعار کا اظہار مقصود ہو، نہ کہ اس سے زیب وزینت کی نمائش اور شروفساد اور فتنوں کے درپے ہونا مقصود ہو، اس سلسلے میں کافی متنبہ اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

فصل ششم

جنازے سے متعلق عورتوں کے مخصوص مسائل

اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح پر موت لکھ دی ہے، صرف اسی کی ایک ذات ایسی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ارشاد باری ہے:

﴿وَيَقُولُ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن: ۲۷)

”صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے، باقی رہ جائے گی۔“

انسانی جنازوں کے لئے کچھ مخصوص احکامات ہوتے ہیں جن کا نفاذ زندہ لوگوں پر ضروری ہوتا ہے، اس ضمن میں خواتین کے مخصوص احکام و مسائل کا ذکر ہم ذیل میں کر رہے ہیں:

۱- فوت شدہ عورتوں کو عورتیں ہی غسل (جنازہ) دیں گی، خواتین کو غسل (جنازہ) دینا شوہر کے علاوہ دیگر مردوں کے لئے جائز نہیں ہے، صرف شوہر اپنی بیوی کو غسل (جنازہ) دے سکتا ہے، اسی طرح مرد جنازے کو مرد ہی غسل (جنازہ) دیں گے، عورتیں اسے غسل نہیں دے سکتی ہیں، البتہ بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت

فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ (رضی اللہ عنہا) کو غسل دیا تھا اور حضرت اسماء بنت عمیس (رضی اللہ عنہا) نے اپنے خاوند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا۔

۲- عورت کو پانچ سفید کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے:

(۱) ازار جس کو بطور تہ بند استعمال کیا جائے گا۔

(۲) خمار (اوڑھنی) جس کو اس کے سر پر باندھا جائے گا۔

(۳) قیص جو اسے پہنانی جائے گی۔

(۴،۵) دو لفافے، جن میں وہ مذکورہ کپڑوں کے اوپر سے پیٹی

جائے گی۔ دلیل حضرت لیلی شقفیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جس میں وہ

فرماتی ہیں:

(كُنْتُ فِيمَنْ عَسَلَ أُمَّ كُلُّ ثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ وَفَاتِهَا

وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحِقَاءُ ثُمَّ الدِّرَعُ، ثُمَّ الْعِمَارُ،

ثُمَّ الْمِلْحَفَةُ، ثُمَّ أَدْرِجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشُّوْبِ الْآخِرِ) (احمد ابو داؤد)

”حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ ﷺ (رضی اللہ عنہا) کو ان کی وفات

کے وقت غسل دینے والیوں میں میں بھی تھی، سب سے پہلی چیز جسے

آپ ﷺ نے ہمیں دیا تھا وہ ازار (تہ بند) تھا، اس کے بعد قیص دی،

پھر خمار (اوڑھنی) پھر چادر دی، اس کے بعد انہیں دوسرے کپڑے میں
لپیٹا گیا۔

حدیث میں وارد لفظ ”الحقاء“ کے معنی ازار (تہبند) کے ہیں، امام شوکانی
(رحمہ اللہ) نیل الاوطار (۳۲/۳) میں لکھتے ہیں: ”مذکورہ حدیث سے معلوم
ہوتا ہے کہ عورتوں کے کفن میں ازار (تہبند) قمیص، خمار (اوڑھنی) چادر اور
لفافہ مشروع ہے۔“

۳- فوت شدہ عورت کے بالوں کا حکم:

اس کے بالوں کی تین چوٹیاں بنائی جائیں گی اور انہیں پیچھے ڈال دیا جائے
گا، دلیل حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے جس میں انہوں نے
رسول اللہ ﷺ کی لڑکی کو غسل دینے کی صفت بیان کی ہے، فرماتی ہیں:

(فَضَّفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَالْقَيْنَا هُ خَلْفَهَا) (متفرق عليه)

”ہم نے ان کے بالوں کی تین چوٹیاں بنائیں گی اور انہیں پیچھے ڈال دیا تھا۔“

۴- جنازے کے ساتھ خواتین کے چلنے کا حکم:

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

(نُهِيَنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعَزِّمْ عَلَيْنَا) (متفرق عليه)

”ہمیں جنازہ کے ساتھ چلنے سے روکا گیا ہے، لیکن ہمارے اوپر بہت

زیادہ زور نہیں دیا گیا ہے۔“

بظاہر اس نہی (ممانعت) سے تحریم کا پتہ چلتا ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے قول ”لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا“ کی تفسیر و تشریح میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجروح القتاوی (۳۵۵/۲۲) میں فرماتے ہیں: ”ہو سکتا ہے اس سے آپ کا مقصد یہ ہو کہ نہی (ممانعت) میں زور نہیں دیا گیا ہے، مگر اس سے تحریم کی نفی نہیں ہوتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے تین گمان کیا ہو کہ یہ نہی تحریم کے لئے نہیں ہے جبکہ رسول اکرم ﷺ کے قول مبارک میں ہے نہ کہ کسی دوسرے کے ظن و تجھیں میں۔“

۵- خواتین کے لئے قبروں کی زیارت حرام ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں:

(إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَعْنَ زَوَارَاتِ الْقُبُوْرِ)

”رسول اللہ ﷺ نے قبروں کی (بکثرت) زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔“ (احمد، ابن ماجہ، ترمذی نیز ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے)۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یہ بالکل واضح بات ہے کہ خواتین کے لئے اس کے دروازے کو کھول دیا گیا تو ان کے اندر پائی جانے والی کمزوری، کثرت جزع و فزع اور قلت صبر کی وجہ سے ان کا معاملہ چیخ و پکار،

آہ وزاری اور نوحہ و گریہ وزاری پر جا کر ختم ہو گا، مزید براں یہ عمل ان کی گریہ
زاری کی وجہ سے مردہ کی اذیت و تکلیف کا بھی باعث بنے گا، کیونکہ اس میں
عورتوں کی آواز اور ان کی شکل و صورت کی وجہ سے زندوں کے لئے فتنہ کا
سامان بھی ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے:

(فَإِنْ كُنَّ تَفْتَنَ الْحَيٰ وَتُؤْذِنَ الْمَيِّتَ)

”تم لوگ زندوں کو فتنوں میں اور مردوں کو اذیت میں بٹلا کرنے والی ہو۔“

جب قبروں کی زیارت خواتین کے لئے خود ان کے حق میں اور دوسرے
مرد حضرات کے حق میں بہت سے محramat کا سبب اور پیش خیمه بنتی ہے اور
یہاں حکمت و مصلحت کی کوئی تحدید تعیین نہیں کی گئی ہے، لہذا اس سلسلے میں کسی
ایسی مقدار کی حد بندی ممکن نہیں ہے جو ان محramat تک نہ لے جانے والی ہیں،
یا اسی طرح ایک نوع (کی زیارت) کا دوسرے نوع (کی زیارت) سے الگ
وممتاز کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اور شریعت کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب کسی
حکم کے اندر حکمت مخفی ہو، یا غیر معروف و منتشر ہو تو حکم کو حکمت کے اندیشے پر
معلق کر کے اس باب کو ہی سد ذریعہ کے طور پر حرام قرار دیا جائے گا، جس
طرح فتنوں کے پیش نظر غیر ظاہری زیب و زینت کی طرف نظر کرنا، اجنبی
عورت کے ساتھ تہائی میں اکھٹا ہونا، اسی نوعیت کی دیگر نگاہیں حرام و منوع ہیں،

خواتین کی قبروں کی زیارت میں سوائے میت کے حق میں دعا کے اور کوئی مصلحت نہیں پائی جاتی ہے، جو گھر میں رہ کر بھی ممکن ہے۔ مجموع الفتاویٰ (۳۳۵/۲۲)

۶- نوحہ اور گریہ وزاری کی حرمت:

میت کو یاد کر کے آواز بلند اس پر رونا، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کپڑے پھاڑنا، رخساروں پر تھپٹر مارنا، بال نوچنا، چہرہ سیاہ کرنا یا نوچنا، ہلاکت و بر بادی کی دعائیں کرنا، اسی طرح کے دیگر تمام اعمال جن سے قضاء و قدر پر عدم اعتماد اور بے صبری ظاہر ہوتی ہو سب نوحہ میں داخل ہیں اور یہ سارے اعمال حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، دلیل صحیحین کی وہ حدیث ہے جس میں رسول اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

(لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)

”وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخساروں کو تھپٹر مارے، گریبان چاک کرے، اور جاہلیت کی پکار پکارے۔“

صحیحین ہی میں یہ حدیث بھی ہے جس میں رسول اکرم ﷺ نے صالحہ، حالقہ اور شاقہ سے اپنی براءت ظاہر کی ہے۔

صالقہ: مصیبت کے وقت چیخ و پکار کرنے والی عورت کو کہتے ہیں۔

حالة: مصیبت کے وقت سرمنڈا نے والی عورت کو کہتے ہیں۔

شاقہ: مصیبت کے وقت کپڑوں کو پھاڑنے والی عورت کو کہتے ہیں۔

صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ”رسول اکرم ﷺ نے نوحہ کرنے

والی اور نوحہ سننے والی عورت پر لعنت بھیجی ہے“، اس کے الفاظ یہ ہیں:

(أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعْنَ النَّائِحَةِ وَالْمُسْتَمِعَةِ)

لفظ (الْمُسْتَمِعَةَ) سے مراد وہ عورت ہے جو بالقصد نوحہ سننے جائے، اور اس

کو نوحہ پسند ہو۔

مسلم خواتین کو مصیبت کے وقت ان حرام کاموں سے بچنا بہت ضروری

ہے، مصیبت کے وقت صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی

توقع رکھنا چاہئے، مصیبت کے وقت یہی طرز عمل ان کے گناہوں کے لئے

کفارہ اور نکیوں میں زیادتی کا سبب بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ☆ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ

قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ☆ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ

وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (آل بقرة: ۱۵۷-۱۵۵)

”اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر

سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

ہاں! موت کے وقت اس طرح رونا کہ اس میں گریہ وزاری، نوحہ اور دیگر ایسے حرام اور ناجائز کام نہ پائے جائیں جن میں قضا و قدر سے ناراضگی اور عدم رضا ظاہر ہو، جائز ہے، کیونکہ رونے سے میت پر شفقت اور رقت قلب کا پتہ چلتا ہے اور اس نوعیت کی بکاء پر قابو پانا بھی ناممکن ہے، اسی وجہ سے اس کو مباح بلکہ بعض حالات میں مستحب قرار دیا گیا ہے۔ واللہ المستعان۔

فصل ہفتہم

روزے سے متعلق خواتین کے مخصوص مسائل

ماہ رمضان کے روزے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں، روزہ کو اسلام

میں ایک بنیادی ستون کی حیثیت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿بَأَيْمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ۱۸۳)

”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے

پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔“ -

آیت میں (کتب) کے معنی ہیں فرض کیا گیا، جب لڑکی سن تکلیف

(بلوغت کی عمر) کو پہنچ جائے بایس طور کہ علامات بلوغت میں سے کوئی ایک

علامت ظاہر ہو جائے، انہی میں سے حیض کا آنا بھی ایک علامت ہے، تو ایسی

لڑکی کے حق میں روزہ واجب ہو جاتا ہے، بعض بچیوں کو نو سال کی عمر میں ہی

حیض شروع ہو جاتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ حیض شروع ہو جانے کے

بعد روزہ اس پر واجب ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ اپنے آپ کو کم عمر سمجھ کر روزہ

نہیں رکھتی اور نہ ہی اس کے اہل خاندان اسے روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں،

حالانکہ یہ عمل اسلام کے ایک اہم اور عظیم رکن کو ترک کر کے زبردست تسلیلی
اور سستی اختیار کرنے کے مترادف ہے، اگر کسی عورت سے اس قسم کی کوتاہی کا
بچپن میں صدور ہوا ہو تو اس پر ان تمام روزوں کی قضاضروری ہے جنہیں اس
نے ابتداء حیض میں ترک کیا تھا، خواہ اس پر ایک لمبی مدت گذر گئی ہو، کیونکہ یہ
تمام روزے اس کے ذمہ باقی ہیں۔ (روزوں کی قضاء کے ساتھ ہر دن کے بد لے نص
صاع گیہوں مساکین کو دینا ضروری ہے)۔

☆ کن لوگوں پر روزہ رکھنا واجب ہے؟

ماہ رمضان کے شروع ہو جانے پر ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر جو
حالت صحت میں ہو اور مقیم ہو (یعنی حالت سفر میں نہ ہو) رمضان کے روزے
فرض ہو جاتے ہیں، اگر کوئی مرد یا عورت اس مہینہ میں بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ
افطار کر سکتا ہے، یعنی اس کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ حاصل ہے، البتہ (شغایابی
یا سفر کی حالت ختم ہونے کے بعد) رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں
چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء کرے گا، ارشادربانی ہے:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرہ: ۱۸۵)

”تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے وہ روزہ رکھے، ہاں جو بیمار ہو یا

مسافر ہوا سے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہئے۔“
 اسی طرح ایسا عمر دراز مرد یا ایسی عمر دراز خاتون جس کو روزے کی
 استطاعت نہ ہو، یا ایسا داگی مريض جس کے مرض کے زائل ہونے اور اس کی
 شفایابی کی توقع نہ ہو خواہ مرد ہو یا عورت وہ بھی افطار کر سکتے ہیں (یعنی روزہ
 چھوڑ سکتے ہیں)، ہر دن کے بد لے ایک مسکین کو ملک کی عام غذا سے نصف
 صاع دینا ضروری ہو گا، لیل فرمان الہی ہے:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ﴾ (البقرة: ۱۸۴)

”اور جو لوگ مشقت طاقت رکھنے والے ہیں وہ فدیہ میں ایک مسکین کو
 کھانا دیں۔“

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”یہ آیت ایسے عمر دراز
 بوڑھے شخص کے بارے میں ہے جس کی شفایابی کی امید نہیں ہوتی۔“ (بخاری)
 اور ایسا مريض جس کی بیماری سے شفایابی کی توقع نہ ہو وہ بھی عمر دراز
 بوڑھے شخص کے حکم میں ہو گا، عدم استطاعت کی وجہ سے ان دونوں پر روزہ کی
 قضا نہیں ہے۔ آیت میں (يُطِيقُونَهُ) کے معنی ہیں:
 ”نہایت مشقت کے ساتھ برداشت کرنا۔“

خواتین کو مخصوص طور پر چند اعذار کی وجہ سے ماہ رمضان میں افطار کی

اجازت ہے لیکن عذر کی وجہ سے ترک کئے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہے، وہ اعذار جن کی وجہ سے خواتین روزہ ترک کر سکتی ہیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱- حیض و نفاس: ان دونوں حالتوں میں عورتوں کے لئے روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن دیگر ایام میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ان پر واجب ہے۔ دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے جو صحیحین میں مردوی ہے جس میں آپ فرماتی ہیں:

(كُنَّا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)

”ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔“

آپ (رضی اللہ عنہا) نے یہ بات ایک عورت کے اس استفسار پر فرمائی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی، تو آپ نے مذکورہ جواب کے ذریعہ یہ وضاحت فرمادی کہ یہ امر توقیفی ہے جس میں عقل و قیاس کا دخل نہیں ہے، اس میں شریعت کے حکم کی اتباع کی جائیگی۔

☆ حالت حیض میں روزے کی ممانعت کا راز:

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ (۲۵۱/۱۵) میں لکھتے ہیں:

”جیض کی وجہ سے آنے والے خون میں خون کا نکلنا پایا جاتا ہے، جبکہ حائضہ کے لئے ممکن ہے کہ جیض کے ان اوقات کے علاوہ دیگر اوقات میں روزہ رکھنے کے جن میں خون کا نکلنا نہیں پایا جاتا ہے، لہذا ایسی صورت میں اس کا روزہ رکھنا معتدل ہو گا کیونکہ اس میں جسم کو تقویت پہنچانے والے بلکہ جسم کے اصل مادہ کا نکلنا نہیں پایا جاتا ہے، حالت جیض میں روزہ رکھنے سے وجوہی طور پر لازم آئے گا کہ جسم کا اصل مادہ بھی خارج ہو جو اس کے جسم کی کمی اور خود اس کے ضعف کا سبب بتتا ہے اور ساتھ ہی روزے کا حد اعتدال سے بھی خروج لازم آئے گا۔ خواتین کو اسی بنا پر اوقات جیض کے علاوہ دیگر اوقات میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔“

۲- حمل و رضاعت:

حالت حمل اور حالت رضاعت (یعنی دودھ پلانے کی حالت) میں روزہ رکھنے سے خود عورت کو یا بچے کو یا ایک ساتھ دونوں کو نقصان اور ضرر لاحق ہو سکتا ہے، لہذا عورت ان دونوں حالتوں میں افطار کر سکتی ہے (یعنی روزہ چھوڑ سکتی ہے)۔ اگر ضرر (نقصان) جس کے پیش نظر اس نے روزہ ترک کیا ہے محسن بچے کو لاحق تھا تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی اور ہر دن کے بد لے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی، اور اگر ضرر عورت کو بھی لاحق تھا تو اس پر

صرف قضا ضروری ہے کیونکہ آیت:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ﴾ (البقرة: ١٨٤)

”اور جو لوگ اس کی بخشقت طاقت رکھنے والے ہیں وہ فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔“

کے عموم میں حاملہ اور مرضعہ (دودھ پلانے والی عورت) بھی داخل ہیں۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر (۳۷۹/۱) میں فرماتے ہیں:

”مذکورہ آیت کے مفہوم میں حاملہ اور مرضعہ بھی شامل مانی جائیں گی بشرطیکہ انہیں اپنے اور اپنے بچوں پر خوف لاحق ہو۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اگر حاملہ اپنے جنین (پیٹ کے بچے) پر خوف محسوس کرتی ہو تو افطار کرے گی، اور ہر دن کے بدے ایک دن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک مسکین کو ایک رطل روٹی کھلائے گی۔“
مجموع الفتاوی (۳۱۸/۲۵)۔ (رطل: ۳۰۸ گرام کے مساوی ہوتا ہے ملاحظہ ہو، الایضاح والتبیان فی معرفۃ المکیال والکیزان)۔

تنبیہ:

۱- مستحاصہ (استحاصہ والی عورت) جس کو ایسا خون آرہا ہو جسے حیض کا خون نہیں کہا جا سکتا جیسا کہ سابقہ سطور میں بیان کیا جا چکا ہے، اس پر روزہ

فرض ہے، اس کے لئے افطار (روزہ کا ترک کرنا) جائز نہیں ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حاضرہ عورت کے افطار کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں：“برخلاف مسحاضہ کے، اس لئے کہ استھاضہ کا خون تمام اوقات میں آتا ہے، اس کا کوئی مخصوص و معین وقت نہیں ہے کہ اس کے علاوہ دیگر اوقات میں روزہ رکھنے کا اسے حکم دیا جائے، اس سے بچنا بھی ناممکنات میں سے ہے جس طرح از خود قے آجانا، زخم اور پھوڑوں کی وجہ سے خون کا نکنا اور احتلام وغیرہ ہیں، ان کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا کہ ان سے احتراز کیا جائے، لہذا یہ تمام امور روزہ کے منافی نہیں قرار دیئے جائیں گے جس طرح حیض کے خون کو قرار دیا گیا ہے۔” (مجموع فتاویٰ ۲۵/۲۵)

- ۲ - حاضرہ، حاملہ اور مرضعہ کو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دوسرے رمضان کے آنے تک واجبی طور پر کر لینی چاہئے، قضا میں جتنی جلد بازی سے کام لیا جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، اگر اگلا رمضان شروع ہونے میں اتنے ہی دن باقی رہ گئے ہوں جتنے دن اس نے روزہ ترک کیا ہے تو پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا واجب ہو جاتی ہے، اسے لازمی طور پر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لینی چاہئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا رمضان شروع ہو جائے اور اس پر پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہو، اور اگر ایسا

ہو گیا کہ پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا کے بغیر دوسرا رمضان شروع ہو گیا اور تاخیر کا کوئی عذر معمول نہ ہوتا چھوٹے روزوں کی قضا کے ساتھ ہر دن کے بد لے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہو گا اور اگر کسی عذر کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہو تو صرف روزوں کی قضا کی جائے گی۔ اسی طرح ان تمام لوگوں کا مذکورہ تفصیل کے مطابق ہی معاملہ ہو گا جن پر بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ہے، کیونکہ وہ بھی انہی عورتوں کے حکم میں ہونگے جنہوں نے حیض کی وجہ سے روزہ ترک کیا تھا۔

۳- خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کسی عورت کے لئے نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، دلیل امام بخاری و امام مسلم رحمہما اللہ اور دیگر محدثین کی روایت کردہ حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں رسول اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَ زَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ)

”کسی عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اور اس کا شوہر موجود ہو مگر اس کی اجازت سے۔“

امام احمد اور امام ابو داؤد رحمہما اللہ کے یہاں بعض روایات میں (الا رمضان) کا اضافہ ہے، یعنی رمضان کے روزوں کو مستثنی کیا گیا ہے، ان کے

لئے خاوند کی اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر شوہر نے نفلی روزوں کی اجازت دیدی ہو یا وہ موجود نہ ہو یا کسی کا شوہر ہی نہ ہو تو ایسی عورت کے لئے نفلی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ خصوصاً جن ایام میں روزہ رکھنے کی فضیلت وارد ہے، مثال کے طور پر دو شنبہ و جمعرات کے دن، ہر ماہ میں تین دن (ایام بیض) شش عیدی روزے، ذی الحجه کے دس دن، عرفہ کا دن، عاشوراء کا دن ایک دن ماقبل یا ایک دن مابعد کے ساتھ۔ ان تمام ایام میں روزے کی بڑی فضیلت ہے، البتہ رمضان کے روزوں کی قضا اگر اس پر ہے تو پہلے روزوں کی قضا کرے گی، قضا کے بغیر نفلی روزے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

- ۲ - حائضہ اگر رمضان میں دن کے وقت حیض سے پاک ہوئی ہے تو اسے دن کے بقیہ حصہ کو کچھ کھائے پئے بغیر گذارنا چاہئے، اور حیض کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزوں کے ساتھ اس دن کی بھی قضا کرے گی جس دن اس نے طہارت حاصل کی تھی، اس دن کے بقیہ حصہ کو کچھ کھائے پئے بغیر گذارنا رمضان کے ادب و احترام میں واجب ہے۔

فصل ہشتم

حج و عمرہ سے متعلق خواتین کے مخصوص مسائل

خانہ کعبہ کا سالانہ حج امت اسلامیہ پر فرض کفایہ ہے، اور ہر اس مسلم فرد پر جس کے اندر حج کی شرائط متوفر ہوں، زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ ایک سے زائد بار حج نفل شمار ہو گا۔ حج اسلام کا ایک رکن ہے، نیز مسلم خواتین کے حق میں جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جس میں انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے دریافت کیا تھا:

(يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَهْلٌ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادًا لَا

قِتَالٍ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمَرَةُ)

”یا رسول اللہ! کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! ان پر ایک ایسا جہاد ہے جس میں جنگ نہیں ہے وہ حج و عمرہ ہے۔“

(امام احمد، امام ابن ماجہ رحمہما اللہ نے صحیح سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے)

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے رسول اکرم ﷺ سے پوچھا:

(يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَكِنَّ

أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجُّ مَبُرُورٌ

”یا رسول اللہ! ہم جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتے ہیں، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا: لیکن تمہارے لئے سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے۔“

حج سے متعلق خواتین کے چند مخصوص مسائل حسب ذیل ہیں:
۱- محرم: حج کی فرضیت کے لئے مرد و زن کے حق میں چند عام شرائط ہیں جو یہ ہیں: اسلام، عقل، حریت (آزادی) بلوغت، اور مالی استطاعت۔

خواتین کے حق میں ایک مخصوص شرط ایسے محرم کا وجود بھی ہے جو اس کے ساتھ سفر حج کے لئے نکل سکے، محرم خود اس کا خاوند ہو گا یا ایسا شخص ہو گا جس پر عورت ہمیشہ کے لئے بسبب نسب حرام ہو گی جیسے اس کے والد، یا بھائی، یا بیٹا، یا کسی مباح سبب کی وجہ سے حرام ہو گی جیسے رضاعی بھائی، یا اس کی والدہ کا شوہر یا اس کے شوہر کا لڑکا۔ دلیل حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ حدیث ہے جس میں ہے کہ آپ نے رسول اکرم ﷺ کو خطیبہ میں فرماتے ہوئے سننا:

«لَا يَحْلُلُونَ رَجُلًا بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ

حَاجَةً وَ إِنِّي أَكْتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَ كَذَا، قَالَ: فَإِنْطِلْقْ فَهُجَّ مَعَ

اَمْرَأَتِكَ) (متفق عليه)

کوئی (جنہی) مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت (تہائی) میں نہ ہو مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو، اور عورت بغیر محرم کے سفر پر نہ نکلے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا: یا رسول اللہ! میری بیوی حج میں نکلی ہے اور میں نے فلاں فلاں غزوہ (جنگ) میں اپنا نام لکھوا�ا ہے؟ آپ نے فرمایا: جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مردی وہ حدیث بھی ہے جس میں رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

(لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) (متفق عليه)

”عورت تین (دن) کا سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔“
اس سلسلے میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں جن سے عورت کے بغیر محرم حج یا غیر حج میں نکلنے کی سخت ممانعت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ عورت ایک کمزور مخلوق ہے، سفر میں ایسی مختلف پریشانیاں اور عوارض پیش آسکتے ہیں جن کا مقابلہ صرف مرد ہی کر سکتے ہیں، نیز عورت بد مقاش اور او باش قسم کے لوگوں کی بد نیتی اور حرص و طمع کا نشانہ بن سکتی ہے، لہذا ایسے محرم کا ساتھ ہونا جو اس کو

تحفظ فراہم کر سکے اور پریشانیوں سے اسے نجات دلا سکے، اشد ضروری ہے۔
عورت کے ساتھ حج کے لئے نکلنے والے محرم میں عقل، بلوغت اور اسلام کی
شرط ضروری ہے کیونکہ کافر قابل اعتماد نہیں ہو سکتا، اگر عورت محرم کی جانب سے
نا امید ہو جائے تو لازمی طور پر کسی سے حج بدل کرائے گی۔

۲- نفلی حج کے لئے عورت کو اپنے خاوند سے اجازت لینی ضروری ہے،
کیونکہ حج میں نکلنے کی وجہ سے اس کے اوپر شوہر کے جو حقوق عائد ہیں وہ
ضائع ہو جائیں گے۔

المغنی (۳/۲۲۰) میں علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: ”نفلی حج
سے خاوند اپنی بیوی کو منع کر سکتا ہے، علامہ ابن المنذر نے اس پر اہل علم کا
اجماع نقل کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نفلی حج کے لئے نکلنے سے روک سکتا ہے،
کیونکہ شوہر کا حق بیوی پر واجب ہے، لہذا کسی غیر واجب عمل کے ذریعہ اس
واجب عمل کو ضائع نہیں کر سکتی، جس طرح آقا کا معاملہ اس کے اپنے غلام کے
ساتھ ہے۔“

۳- عورت مرد کی جانب سے حج یا عمرہ میں نیابت کر سکتی ہے:
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ (۱۳/۲۶) میں لکھتے ہیں:
”باتفاق علماء ایک عورت دوسری عورت کا حج بدل کر سکتی ہے، خواہ وہ لڑکی

ہو یا کوئی دوسری عورت، اسی طرح ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کے نزدیک عورت مرد کا حج بدل کر سکتی ہے، کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے خشومی عورت کو اپنے والد کی جانب سے حج کرنے کا حکم دیا تھا جس وقت اس نے یہ کہا تھا:

(يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجَّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أُبُّي
وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ تَحْجَّ عَنْ أَبِيهَا)

”یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کے فریضہ حج نے میرے والد کو پالیا ہے (یعنی میرے والد پر فرض ہو گیا ہے) لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، تو رسول اکرم ﷺ نے اس عورت کو اپنے والد کی جانب سے حج کرنے کی ہدایت کی تھی۔“

یہ الگ بات ہے کہ مرد کا احرام عورت کے احرام کی بہ نسبت زیادہ مکمل ہوتا ہے۔

-۳- اگر سفر حج کے دوران عورت حیض یا نفاس میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنا سفر حج جاری رکھے گی، اگر عین احرام کے وقت حیض یا نفاس میں مبتلا ہوئی ہے تو وہ دیگر پاک و صاف عورتوں کی طرح احرام باندھے گی، کیونکہ احرام باندھنے کے لئے طہارت شرط نہیں ہے، علامہ ابن قدامة المغفی (۲۹۳-۲۹۲/۳) میں لکھتے ہیں: ”حاصل کلام یہ کہ خواتین کے لئے احرام کے وقت مردوں کی طرح

غسل مشرع ہے کیونکہ یہ ایک نسک (عمل حج) ہے اور حیض و نفاس والی عورتوں کے حق میں یہ غسل زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے متعلق حدیث وارد ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

(حَتَّىٰ أَتَيْنَا ذَالِلْحُلْيَةَ فَوَلَدَتْ أُسْمَاءُ بْنُتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: اغْتَسِلِي وَاسْتَشْفِرِي بِشَوَّبٍ وَأَحْرِمِي) (متفق عليه)

”یہاں تک کہ ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے یہاں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی، انہوں نے رسول ﷺ کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لئے بھیجا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: غسل کر کے لنگوٹ کس لو اور احرام باندھ لو۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: (الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ) (ابوداؤد)

”حیض و نفاس والی خواتین بھی میقات پر پہنچ کر غسل کریں گی اور احرام باندھ لیں گی، اور تمام اعمال حج بجا لائیں گی سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے۔“

اسی طرح رسول اکرم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جبکہ وہ
حالت حیض میں تھیں حج کا احرام باندھنے کے لئے غسل کا حکم دیا تھا،۔

احرام کے وقت حیض و نفاس والی خواتین کے غسل کا مقصد نظافت حاصل
کرنا اور ناپسندیدہ بوکا ختم کرنا ہے تاکہ بھیڑ کے وقت لوگ اس سے اذیت نہ
محسوس کریں، اسی طرح نجاست میں تخفیف مقصود ہے۔

اگر حالت احرام میں عورت کو نفاس یا حیض آجائے تو اس سے احرام پر
کوئی اثر نہیں پڑے گا، چنانچہ وہ حالت احرام ہی میں باقی رہے گی، تمام
ممنوعات احرام سے اجتناب کرے گی، البتہ بیت اللہ کا طواف حیض و نفاس
سے پاک ہوئے اور غسل (طہارت) کئے بغیر نہیں کر سکتی، اگر عرفہ کے دن
بھی وہ نہیں پاک ہو سکی اور اس نے حج تمتّع کا احرام باندھ رکھا تھا تو وہ حج کو
عمرہ میں داخل کر کے حج کا احرام باندھ لے گی، اس طرح وہ قارنہ (یعنی حج
قرآن کرنے والی) ہو جائے گی، اس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
عمرہ کا احرام باندھ رکھا تھا، جب ان کو حیض آگیا اور رسول اللہ ﷺ ان کے
پاس تشریف لائے تو وہ رورہی تھیں، آپ نے ان سے دریافت فرمایا:

(مَا يُبَيِّكِيلُكِ؟ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: هَذَا شَيْءٌ قَدْ كَتَبَهُ

اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، إِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ)

”کیوں رو رہی ہو؟ شاید تمہیں جیس آگیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: جی ہاں، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم (خواتین) پر لکھ دی ہے، حج کے تمام اركان ادا کرو سوائے طواف کعبہ کے۔“ (بخاری و مسلم)۔

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت میں ہے: اس کے بعد رسول اکرم ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ بیٹھی رورہی ہیں، دریافت فرمایا: کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: مجھے جیس آگیا ہے، لوگ (عمرہ سے) حلال ہو گئے اور میں نہیں ہوئی، اور نہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جبکہ طواف کرنے کے بعد اب لوگ حج کے لئے نکل رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ هَذَا أَمْرًا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاعْتَسِلُي ۖ ثُمَّ أَهْلِي ،
فَفَعَلَتْ وَوَقَقَتْ الْمَوَاقِفَ حَتَّىٰ إِذَا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَّا
وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ حَلَّتِ مِنْ حَجَّكِ وَعُمْرَتِكِ حَمِيعًا)

”یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنات آدم (خواتین) کے حق میں مقدر کر دیا ہے، لہذا غسل کر کے تلبیہ پکارنا شروع کر دو، انہوں نے ایسا ہی کیا، تمام موافق میں وقوف کیا، جب وہ پاک

وصاف ہو گئیں تو خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی، اس کے بعد رسول اکرم ﷺ نے ان سے کہا: اب تم اپنے حج و عمرہ دونوں سے حلال ہو گئیں، -

علامہ ابن القیم تہذیب السنن (۳۰۳/۲) میں لکھتے ہیں:
 ”صحیح احادیث سے واضح طور پر ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پہلے پہل عمرہ کا تلبیہ پکارا تھا (یعنی عمرہ کا احرام باندھا تھا) اس کے بعد رسول اکرم ﷺ نے آپ کو جس وقت آپ حاضر ہو گئیں حج کا تلبیہ پکارنے کا حکم دیا تھا (یعنی حج کا احرام باندھنے کا حکم دیا تھا) تو اس طرح آپ قارنہ ہو گئیں، اسی وجہ سے نبی اکرم ﷺ نے آپ سے کہا تھا:

(يَكْفِيْكَ طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَّا وَ الْمُرْوَةِ لِحَجَّكَ وَعُمْرَتِكَ)
 ”خانہ کعبہ کا تمہارا (ایک) طواف اور صفا و مروہ کی تمہاری (ایک) سعی تمہارے حج و عمرہ دونوں کے لئے کافی ہے، -

۵- عورت احرام کے وقت کیا کرے گی؟

عورت احرام کے وقت وہی سارے اعمال انجام دے گی جو مرد انجام دیتے ہیں، یعنی غسل کرے گی، اگر ضرورت ہو گی تو بال، ناخن کاٹ کر

ناپسندیدہ بوکو زائل کر کے صفائی اور نظافت حاصل کرے گی تاکہ حالت احرام میں ان کی ضرورت نہ پیش آئے، کیونکہ حالت احرام میں ان کی ممانعت ہے، اگر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی لازمی بات نہیں ہے، اس لئے کہ یہ چیزیں احرام کی خصوصیات میں داخل نہیں ہیں۔

جسم میں کسی ایسے عطر کے لگانے میں حرج نہیں ہے جس میں پھیلنے والی تیز خوشبو نہ پائی جاتی ہو، دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں:

(كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفَضْلُ فَضَمَدْ جِبَاهَنَا بِالْمِسْلِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقْتُ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْفَضْلُ لَا يَنْهَا) (ابوداؤد) -

”هم رسول اکرم ﷺ کے ساتھ نکلتی تھیں، احرام کے وقت اپنی پیشانیوں پر مشک کا لیپ لگایا کرتی تھیں اور جب کسی کو پسینہ ہوتا تو یہ بہہ کر اس کے چہرے پر آ جاتا، نبی کریم ﷺ دیکھتے اور منع نہیں کرتے تھے۔“

علامہ شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار (۱۲/۵) میں فرماتے ہیں:

”آپ ﷺ کا سکوت اختیار کرنا جواز کی دلیل ہے اس لئے کہ آپ کسی غلط یا باطل کام پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔“

۶۔ اگر عورت احرام سے پہلے نقاب یا برقعہ پہنے ہو تو احرام کی نیت کے وقت انہیں نکال دے گی۔

برقعہ یا نقاب چہرہ کے اس پردہ کو کہتے ہیں جس میں دونوں آنکھوں کی جگہوں پر سوراخ بنے ہوتے ہیں جن کے ذریعہ نقاب پوش یا برقعہ پوش عورت کو دکھلائی دیتا ہے۔

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

(لَا تَنْقِبِ الْمُحْرَمَةُ) (بخاری)۔

”عورت حالت احرام میں نقاب نہیں لگائے گی“۔

اور برقعہ کی حیثیت نقاب سے فزوں تر ہے۔ اسی طرح عورت اگر احرام سے پہلے دستانہ پہنے ہوگی تو انہیں بھی احرام کی نیت کرتے وقت نکال دے گی۔ قفاز (دستانہ) دونوں ہاتھوں کے واسطے بنا ہوا ایک ایسا مخصوص لباس ہے جس میں ہاتھوں کو ڈال کر چھپایا جاتا ہے۔

نقاب یا برقعہ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے اپنا چہرہ چھپا سکتی ہے باس طور کہ ہاتھوں کو اپنے اضافی کپڑوں کے اندر کر لے گی، کیونکہ چہرہ اور دونوں ہاتھ پردہ میں داخل ہیں جن کا حالت احرام یا غیر احرام میں مردوں سے چھپانا واجب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: خواتین مکمل طور پر عورت (غیر

محرم سے چھپانے کی چیز) ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایسے کپڑے پہننیں گی جن سے مکمل ستر پوشی ہو، اور محل سے سایہ بھی حاصل کر سکتی ہیں، البتہ نبی کریم ﷺ نے نقاب اور قفاز (دستانہ) کے پہننے سے منع کیا ہے۔ قفاز (دستانہ) ہاتھوں کے لئے بطور غلاف (لفاف) بنایا جاتا ہے۔ اگر عورت حالت احرام میں اپنا چہرہ کسی ایسی چیز سے چھپاتی ہے جو چہرہ سے مس نہ کرتی ہو تو یہ متفقہ طور پر جائز ہے، اور اگر چہرہ سے مس کرتی ہو تو صحیح مسلک کے مطابق یہ بھی جائز ہے، اسے اس بات کا مکلف نہیں بنایا جائے گا کہ اپنے پردہ کو چہرہ سے لکڑی یا ہاتھ یا کسی دوسری چیز کے ذریعہ دور رکھے، کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے عورت کے چہرے اور ہاتھوں کو یکساں حیثیت دی ہے، اور دونوں کو آدمی کے بدن (دھڑ) کی حیثیت حاصل ہے نہ کہ اس کے سر کی حیثیت، ازواج مطہرات اپنے چہروں پر پردے ڈال لیتی تھیں اس کی پرواہ نہیں کرتی تھیں کہ وہ چہروں سے دور رہیں۔

کسی اہل علم نے رسول اللہ ﷺ سے بطور حدیث یہ نقل نہیں کیا ہے:

(إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا)

یعنی ”عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے“، بلکہ یہ بعض علماء سلف کا مقولہ ہے۔

علامہ ابن القیم تہذیب السنن (۲/۳۵۰) میں لکھتے ہیں:

”حالت احرام میں سوائے نقاب کی ممانعت کے رسول اکرم ﷺ سے اس سلسلے میں ایک لفظ بھی ثابت نہیں ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے گی“۔

مزید لکھتے ہیں:

”حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ حالت احرام میں وہ اپنے چہرہ کو ڈھکے رہتی تھیں“۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”سواروں کے قافلے ہم سے گذرتے تھے اور ہم رسول اکرم ﷺ کے ساتھ حالت احرام میں ہوتے تھے، جب وہ ہمارے بالکل سامنے آجاتے تو ہم اپنے چہروں پر اپنی چادریں ڈال لیا کرتے تھے اور جب وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنے چہروں کو کھول لیتے تھے“۔ (ابوداؤد)۔

احرام والی عورت کو معلوم ہونا چاہئے کہ چہرہ اور ہاتھوں کو کسی ایسی چیز سے جو خاص طور پر انہی کے لئے سلے گئے ہوں جیسے نقاب، یا دستانے سے چھپانا ممنوع ہے (لیکن اس کے ساتھ) غیر محرم لوگوں سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو دوپٹہ یا کپڑے کے ذریعے چھپانا واجب ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ لکڑی یا پیگڑی وغیرہ جیسی کوئی چیز رکھ کر پردہ کو چہرہ کی ملامست سے دور رکھا جائے۔

۷۔ حالت احرام میں خواتین کے لئے جملہ زنانہ لباسوں کا استعمال جائز ہے بشرطیکہ وہ زیب و زینت والے نہ ہوں، اور مردانہ لباسوں کے مشابہ نہ ہوں، اور نہ اتنے تنگ و چست ہوں کہ جسمانی اعضاء کی ساخت واضح ہوتی ہو، اور نہ اتنے باریک ہوں کہ ان کے نیچے سے جسم جھلکتا ہو، اور نہ اتنے چھوٹے ہوں کہ ہاتھ اور پیر کھلے ہوں، بلکہ طویل، موٹے اور کشادہ ہونے ضروری ہیں۔ علامہ ابن المندز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اہل علم کا اس امر پر اجماع ہے کہ عورت احرام کی حالت میں قمیص، پائچامہ، اوڑھنی اور موزے استعمال کر سکتی ہیں۔“ (المغنی/۳۲۸)

لباس کے سلسلے میں عورت کسی خاص قسم کے رنگ کی پابند نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مناسب جو رنگ چاہے سرخ، سیاہ کسی بھی رنگ کا لباس پہن سکتی ہے بلکہ کسی ایک رنگ کے پہنے ہوئے لباس کو جب چاہے دوسرے رنگ کے لباس سے تبدیل بھی کر سکتی ہے۔

۸۔ احرام کے بعد خواتین کے لئے تلبیہ پکارنا مسنون ہے، لیکن اتنی آواز سے کہ وہ خود سن سکے۔ علامہ ابن عبدالبر فرماتے ہیں: ”علماء کا اس امر پر اجماع ہے کہ عورت کے حق میں یہی مسنون ہے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ نہیں پکارے گی، بلکہ اتنی آواز سے تلبیہ پکارے گی کہ وہ خود سن سکے، فتنہ کے خوف سے بلند

آواز سے اس کا تلبیہ پکارنا مکروہ ہے، اسی وجہ سے خواتین کے حق میں نہ تو اذان مشروع ہے اور نہ ہی اقامت، اور نماز میں متنبہ کرنے کے لئے تسبیح (سبحان اللہ کہنے) کے بجائے تالی بجانا اس کے حق میں مسنون ہے۔ (امغنا: ۳۲۰/۲: ۳۳۱-۳۳۲)

۹- طواف کعبہ کے وقت خواتین پر مکمل ستر پوشی، آواز کا پست رکھنا، نظر پیچی رکھنا اور مردوں کی بھیڑ میں خصوصاً جھر اسود اور رکن یمانی کے قریب نہ جانا واجب ہے، مطاف کے بالکل آخری حصہ میں جہاں مردوں کا ازدحام نہ ہو ان کا طواف کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے بہ نسبت مطاف کے قربی حصہ میں بیت اللہ سے قریب رہ کر طواف کرنے کے، کیونکہ مردوں کے ساتھ ازدحام لگانا فتنہ کی وجہ سے حرام ہے جبکہ بیت اللہ (خانہ کعبہ) سے قریب رہنا اور جھر اسود کا بوسہ دینا اگر بسہولت ان کا حصول ممکن ہو تو یہ زیادہ سنت ہے، لہذا ایک سنت کے حصول کی خاطر حرام کام کا ارتکاب نہیں کرنا چاہئے، بلکہ اس صورتحال میں ان کے لئے ان دونوں پر عمل کی سنیت بھی باقی نہیں رہ جاتی، کیونکہ اس صورتحال میں ان کے لئے مسنون یہی ہے کہ جب جھر اسود کے مقابل ہوں گی تو اس کی طرف اشارہ کریں گی۔

امام نووی رحمہ اللہ الجمیع (۸/۳۷) میں لکھتے ہیں: ”ہمارے اصحاب (علماء مذهب) کا قول ہے کہ خواتین کے لئے جھر اسود کا بوسہ یا اس کا استلام

(ہاتھ سے چھو کر اس کو بوسہ دینا) غیر مستحب ہے، مگر یہ کہ رات وغیرہ میں جب مطاف خالی ہو تو ایسا کر سکتی ہیں، کیونکہ اس میں خود ان کے لئے اور دوسرے لوگوں کے لئے ضرر اور فتنہ ہے۔

علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ الْمَغْنی (۳۳۱/۳) میں لکھتے ہیں: ”خواتین کے لئے رات میں طواف کرنا مستحب ہے، کیونکہ رات کے وقت طواف میں زیادہ ستر پوشی ہوتی ہے، ازدحام بھی کم ہوتا ہے، اس وقت بیت اللہ سے قربت اور حجر اسود کا استسلام بھی ان کے لئے ممکن ہو سکتا ہے۔“

۱۰- علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ الْمَغْنی (۳۹۲/۳) میں لکھتے ہیں:

”خواتین کے طواف اور ان کی سعی میں معمول کے مطابق چلنا ہے۔

علامہ ابن المندز رفرماتے ہیں: اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ طواف کعبہ میں خواتین پر اضطیاع (داہنے کندھے کو کھولنا) بھی نہیں ہے، کیونکہ رمل (دکنی چال) اور اضطیاع کا مقصد طاقت و قوت کا مظاہرہ ہے اور خواتین سے طاقت و قوت کا مظاہرہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ ان سے ستر پوشی مطلوب ہے، رمل و اضطیاع میں اس کے برخلاف بے پر دگی پائی جاتی ہے۔

۱۱- حائضہ عورت طہارت حاصل کرنے تک کن اعمال حج کو ادا کرے گی؟

حائضہ تمام اعمال حج ادا کرے گی، احرام باندھے گی، وقوف عرفہ کرے گی،

مزدلفہ میں رات گزارے گی، کنکری مارے گی، البتہ بیت اللہ کا طواف پاک ہونے سے پہلے نہیں کرے گی۔ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، جس میں رسول اکرم ﷺ نے حیض آجانے پر ان سے فرمایا تھا:

(إِفْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطْوُفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهِيْرِيْ) (متفق علیہ)۔

”تمام اعمال حج کو انجام دو، البتہ طہارت حاصل کرنے تک بیت اللہ کے طواف سے رکی رہو۔“

امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت میں ہے:

(فَاقْضِيْ مَا يَقْضِيْ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطْوُفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْسِلِيْ)

”وہ سارے مناسک حج ادا کرو جن کو ایک حاجی ادا کرتا ہے، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا یہاں تک کہ غسل (طہارت) سے فارغ ہو جاؤ۔“

امام شوکانی نیل الاوطار (۲۹/۵) میں لکھتے ہیں: ”مذکورہ حدیث سے حائضہ کے لئے طواف سے نہی (ممانعت) واضح طور پر ثابت ہوتی ہے، یہاں تک کہ حیض کا خون بند ہو جائے اور وہ غسل (طہارت) سے فارغ ہو جائے، اور نہی (ممانعت) فساد کو چاہتی ہے جس سے عمل کا بطلان مراد ہوتا ہے، لہذا اس حائضہ کا طواف باطل ہے، یہی جمہور کا قول ہے۔“

صفا و مروہ کے مابین سمعی بھی نہیں کرے گی، کیونکہ سمعی اس طواف کے بعد

ہی صحیح ہو سکتی ہے جسے حج کے رکن کی حیثیت حاصل ہے اس لئے کہ نبی
کریم ﷺ نے سعی طواف کے بعد ہی کی ہے۔

امام نووی الحججی (۸۲/۸) میں لکھتے ہیں: اگر کسی نے طواف سے پہلے
سعی کر لی تو ہمارے نزدیک اس کی سعی درست نہیں ہوگی، یہی جمہور علماء کا قول
ہے۔ امام ماوردی سے ہم یہ قول نقل کر آئے ہیں کہ انہوں نے اس بارے
میں اجماع نقل کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کا بھی
یہی مذہب ہے۔ علامہ ابن المنذر نے امام عطاء اور بعض اہل الحدیث سے اس
کی صحت نقل کی ہے (یعنی اگر طواف سے پہلے سعی کر لی تو اس کی سعی صحیح مانی
جائے گی) ہمارے اصحاب (علماء مذہب) نے امام عطاء اور داؤد (ظاہری)
رحمہم اللہ سے اسے نقل کیا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے طواف کے بعد ہی سعی کی تھی
اور فرمایا تھا:

«لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكُمْ»

”مجھ سے اپنے مناسک حج حاصل کرو۔“

رہی صحابی رسول ابن شریک رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں آپ فرماتے
ہیں: ”میں حج کے لئے رسول اکرم ﷺ کے ساتھ نکلا تھا، لوگ آپ کے پاس

آتے، بعض کہتے: یا رسول اللہ! میں نے طواف سے پہلے سعی کر لی، یا یہ کہ میں نے ایک عمل کو دوسرے عمل پر مقدم یا موخر کر دیا تو آپ ﷺ ارشاد فرماتے:

((لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ افْتَرَضَ مِنْ عِرْضٍ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ ظَالِمٌ
فَذِلِكَ الَّذِي هَلَكَ وَحَرَجَ))۔

”کوئی حرج نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس نے مسلمان شخص کی عزت ظالمانہ طریقے سے برباد کی تو وہ البتہ تباہ ہو گیا، حرج میں پڑ گیا۔
(اور گنگار ہوا)۔

تو اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے اس کے تمام راوی صحیحین کے راوی ہیں، سوائے صحابی رسول اسامہ بن شریک کے۔
اس حدیث کو علامہ خطابی وغیرہ نے جس معنی و مفہوم پر محمول کیا ہے اسی پر محمول کیا جائے گا اور وہ یہ ہے کہ سائل کا یہ کہنا کہ میں نے طواف سے پہلے سعی کر لی، یعنی طواف قدم کے بعد اور طواف افاضہ سے پہلے سعی کر لی۔

استاد محترم علامہ محمد امین شنقبطی رحمہ اللہ اپنی تفسیر اضواء البيان (۲۵۲/۵) میں فرماتے ہیں: ” واضح ہو کہ جمہور اہل علم کا قول ہے کہ سعی طواف کے بعد ہی صحیح ہو سکتی ہے، اگر طواف سے پہلے سعی کر لی تو یہ سعی جمہور کے نزدیک صحیح نہیں ہو گی، اس کے قائلین میں انہے اربعہ بھی شامل ہیں، امام ماوردی وغیرہ

نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔“

اس کے بعد شیخ موصوف نے امام نووی کا کلام اور صحابی رسول ابن شریک رضی اللہ عنہ کی حدیث کا جواب جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا ہے نقل کیا ہے، پھر فرماتے ہیں: ”حدیث میں سائل کے اس قول (قَبْلَ أَنْ أُطْوَافَ) سے مراد طواف افاضہ ہے جس کو رکن کی حیثیت حاصل ہے، اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ اس نے طواف قدم جس کو رکن کی حیثیت نہیں حاصل ہے کے بعد سعی کی تھی۔“

علامہ ابن قدامہ المغنوی (۲۵۰/۵ طبع بحر) میں رقم طراز ہیں:

”سعی طواف کے تابع ہے، لہذا طواف سے پہلے سعی کرنا درست نہیں ہے، اگر طواف سے پہلے کسی نے سعی کر لی تو یہ سعی صحیح نہیں ہوگی، امام مالک، امام شافعی اور اصحاب رائے کا یہی قول ہے، امام عطاء رحمہم اللہ کے قول کے مطابق یہ سعی صحیح ہو جائے گی، امام احمد رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ اگر بھول سے سعی پہلے کر لی تو صحیح ہو جائے گی اور اگر عمداً کی ہے تو درست نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اکرم ﷺ سے لاعلمی اور نسیان کی صورت میں تقدیم و تاخیر کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو آپ نے ”لاحرج“ (یعنی کوئی بات نہیں) فرمایا تھا۔ اول الذکر مسلک کی توجیہ یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے طواف کے بعد سعی کی تھی، اور فرمایا تھا:

(لِتَأْخُذُوا عَنِي مَنَاسِكُمْ)

”اپنے مناسک حج کو مجھ سے سیکھو۔“

سابقہ سطور سے واضح ہو گیا کہ طواف سے مقبل سعی کو صحیح قرار دینے والوں کا حضرت ابن شریک رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث سے استدلال درست نہیں ہے، حدیث میں اس مسئلے سے کوئی تعریض ہی نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ مذکورہ حدیث دو میں سے کسی ایک حالت پر محمول کی جائے گی، یا تو حدیث اس شخص کے حق میں ہے جس نے طواف افاضہ سے پہلے طواف قدوم کے بعد سعی کی، لہذا اس کی سعی طواف کے بعد ہی ہوئی، یا یہ حدیث بھول کا شکار ہو جانے والے اور جاہل کے حق میں ہے، قصداً طواف سے پہلے سعی کرنے والے کے بارے میں نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں میں نے قدرے تفصیل سے کلام کیا ہے، کیونکہ آج کے دور میں بعض ایسے حضرات ظاہر ہوئے ہیں جو مطلقاً طواف سے پہلے سعی کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ واللہ المستعان۔

متبعیہ:

طواف سے فراغت کے بعد اگر عورت کو حیض آجائے تو حالت حیض ہی میں سعی کر سکتی ہے، کیونکہ سعی کے لئے طہارت (پاکیزگی) لازمی شرط نہیں ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغفی (۲۳۶/۵) میں لکھتے ہیں: ”اکثر اہل علم

کے نزدیک سعی کے لئے طہارت شرط نہیں ہے، اس کے قائلین امام عطاء، امام مالک، امام شافعی، امام ابوثور رحمہم اللہ اور دیگر اصحاب رائے ہیں۔

مزید لکھتے ہیں: ”امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے امام احمد رحمہ اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر طواف کعبہ سے فراغت کے بعد حیض آجائے تو صفا و مروہ کی سعی کر کے واپسی کے لئے نکل سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا و ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں: طواف کعبہ اور اس کی دور کعتوں سے فراغت کے بعد عورت کو حیض آجائے تو صفا مروہ کی سعی کر سکتی ہے۔“ (اثرم نے اس کو روایت کیا ہے)۔

۱۲- چاند چھپ جانے کے بعد لوگوں کے ازدحام کے خوف سے خواتین کا کمزور اور ضعیف لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے کوچ کرنا اور منی پہنچ کر جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا جائز ہے۔ علامہ موفق الدین ابن قدامة المغنى (۳۸۶/۵) میں لکھتے ہیں: ”کمزور، ضعیف لوگوں اور خواتین کو (مزدلفہ سے منی کے لئے) پہلے روانہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، (صحابہ کرام میں سے) حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے خاندان کے ضعیف اور کمزور لوگوں کو پہلے ہی روانہ کر دیا کرتے تھے۔ امام عطاء، ثوری، شافعی، ابوثور رحمہم اللہ نیز دیگر اصحاب رائے کا یہی مسلک ہے۔ ہمارے علم کے مطابق اس

مسئلہ میں کسی نے مذکورہ قول کی مخالفت نہیں کی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں کمزور و ناتوان لوگوں کے ساتھ نرمی و شفقت پائی جاتی ہے، اسوہ رسول ﷺ کے اقتدا کے ساتھ بھیڑ بھاڑ اور ازدحام کی مشقت سے انہیں بچانا اور محفوظ رکھنا بھی ہے۔

علامہ شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار (۵/۷۰) میں لکھتے ہیں: ”دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے جنہیں رخصت نہیں حاصل ہے، کنکری مارنے کا وقت طلوع آفتاب کے بعد ہے، اور جنہیں رخصت حاصل ہے جیسے خواتین، ضعیف اور کمزور لوگ، ان لوگوں کے لئے طلوع آفتاب سے پہلے کنکری مارنا جائز ہے۔“

امام نووی الحجیب (۸/۱۲۵) میں امام شافعی رحمہ اللہ و دیگر علماء مذاہب سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”کمزور، ضعفاء اور خواتین وغیرہ کے حق میں سنت یہ ہے کہ انہیں نصف شب کے بعد طلوع فجر سے پہلے مزدلفہ سے منی کے لئے روانہ کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے ازدحام اور بھیڑ سے پہلے ہی جرہ عقبہ کو کنکری مار کر فارغ ہو جائیں“۔ اس کے بعد موصوف نے دلیل کے طور پر متعدد احادیث ذکر کی ہیں۔

۱۳۔ خواتین کو حج یا عمرہ میں اپنے سروں کا حلق کرانا جائز نہیں ہے، بلکہ

بالوں کے اوپری حصہ سے صرف ایک انگلی کے برابر بال کاٹ لیں گی۔

علامہ ابن قدامہ المغنوی (۳۱۰/۵) میں لکھتے ہیں: ”خواتین کے حق میں قصر (یعنی بال چھوٹا کرنا) مشروع ہے، نہ کہ حلق، اس میں علماء کے ما بین کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس پر علامہ ابن المنذر نے اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے، کیونکہ ان کے حق میں حلق (یعنی بال کا منڈانا) ایک طرح سے مثلہ (اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت کو مسخ کرنا) ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ) (ابوداؤد)

”خواتین پر حلق نہیں ہے، بلکہ ان پر تقصیر (بالوں کو چھوٹا کروانا) ہے۔“

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْجُنُبِ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا)

”رسول اللہ ﷺ نے خواتین کو حلق کرانے سے منع فرمایا ہے۔“ (ترمذی)۔

امام احمد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ عورت ہر چوڑی سے انگلی کے پور کے برابر بال کاٹ لے گی۔ یہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، امام شافعی، اسحاق اور ابوثور رحمہم اللہ کا بھی قول ہے۔ امام ابوداود رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے امام احمد رحمہ اللہ کو سنا ہے آپ سے ایک ایسی عورت کے متعلق سوال کیا گیا جو اپنے تمام بالوں سے

لے کر قصر کرتی ہو؟ آپ نے جواب دیا: ہاں! تمام بالوں کو سر کے اگلے حصہ پر
اکٹھا کر کے ان کے سرے سے ایک انگلی کے برابر کاٹ لے گی۔

امام نووی الجمیع (۱۵۰، ۱۵۲/۸) میں لکھتے ہیں: ”علماء کا اس پر اجماع
ہے کہ خواتین کو حلق (بال منڈانے) کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو تفصیر
(چھوٹا) کرانا ہے، اس لئے کہ حلق ان کے حق میں بدعت اور مثله ہے۔“

۱۴- جمرہ عقبہ کو نکلری مارنے اور بالوں کو تفصیر کرانے کے بعد عورت اپنے
احرام سے حلال ہو جاتی ہے، احرام کی وجہ سے جو چیزیں اس پر حرام تھیں
سب حلال ہو جائیں گی البتہ وہ شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی، طواف افاضہ
(زیارت) سے پہلے شوہر کو بیوی سے ہم بستری کی اجازت نہیں ہے، اور
عورت اپنے شوہر کو طواف زیارت سے پہلے اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتی
ہے۔ اگر اس درمیان شوہرنے اس سے صحبت کر لی تو اس پر فدیہ واجب ہو
جائے گا، یعنی مکہ میں ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کو حرم کے فقراء اور
مساکین پر تقسیم کرنا پڑے گا، کیونکہ شوہرنے حلال اول کے بعد وطی کی ہے۔

۱۵- طواف افاضہ (زیارت) کے بعد اگر عورت کو جیس آجائے تو اس کو
اجازت ہے جب چاہے سفر کر سکتی ہے، طواف وداع اس سے ساقط ہو جائے
گا۔ دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں:

(حَاضَتْ صَفِيَّةٌ بُنْتُ حُبَيّْ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَحَابَسْتَنَا هِيَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، قَالَ: فَلَتَنْفِرْ إِذْنُ)

”صفیہ بنت حبیبی رضی اللہ عنہا کو طواف افاضہ کے بعد حیض آگیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے رسول اکرم ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا: کیا وہ ہمیں روکنے والی ہیں؟ میں نے کہا: انہوں نے طواف افاضہ کر لیا ہے، طواف افاضہ کے بعد ان کو حیض آیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: تب وہ واپسی کے لئے نکل پڑیں۔“ (متفق علیہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں:

(أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونُ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ طَوَافًا إِلَّا أَنَّهُ خُفْفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ) (متفق علیہ) -

”لوگوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کا آخری وقت خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ ہو (یعنی طواف وداع کریں) مگر حائضہ کے حق میں تخفیف کر دی گئی ہے۔“ (یعنی اس سے یہ معاف کر دیا گیا ہے)۔

ابن عباس ہی سے ایک دوسری روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں:

(أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِذَا

كَانَتْ قَدْ طَافَتْ فِي الْإِفَاضَةِ)

”نبی کریم ﷺ نے حائضہ عورت کو طواف (داع) سے قبل واپس

ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، بشرطیکہ طواف افاضہ پہلے کرچکی

ہو۔ (احمد)

امام نووی الحججی (۲۸۱/۸) میں علامہ ابن المنذر کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

”تمام اہل علم کا یہی قول ہے، ان میں امام مالک، او زاعی، ثوری، احمد، اسحاق، ابوثور، ابوحنیفہ رحمہم اللہ وغیرہ شامل ہیں۔“

علامہ ابن قدامہ المغنی (۳۶۱/۳) میں لکھتے ہیں: ”یہی عام فقهاء کا
قول ہے۔“

مزید لکھتے ہیں: ”نفاس والی عورت کا بھی وہی حکم ہے جو حائضہ کا ہے،
کیونکہ کسی چیز کے ساقط ہونے یا واجب ہونے میں حیض و نفاس دونوں کا حکم
کیساں ہے۔“

۱۶- نماز کی ادائیگی اور ذکر و دعاء کے لئے مسجد نبوی کی زیارت خواتین کے
حق میں مستحب ہے (شرطیکہ ان کی زیارت محرم کے ساتھ ہو) لیکن قبر
رسول ﷺ کی زیارت ان کے لئے جائز نہیں ہے، کیونکہ زیارت قبور سے خواتین

کو منع کیا گیا ہے، شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ سابق مفتی سعودی عرب رحمہ اللہ اپنے مجموع فتاویٰ (۲۳۹/۳) میں لکھتے ہیں: ”اس مسئلہ میں حجج اور راجح مسلک یہ ہے کہ خواتین کے لئے قبر نبوی کی زیارت دو اسباب کی بنا پر ممنوع ہے: سبب اول: نبی (ممانعت) کے دلائل کی عمومیت، اور جب کسی چیز سے نبی (ممانعت) عام ہو تو اس نبی کی تخصیص کے لئے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ سبب دوم: جس علت اور سبب کی وجہ سے خواتین کو زیارت قبور سے منع کیا گیا ہے وہ علت یہاں بھی موجود ہے۔“

شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”مناسک حج“ میں مسجد نبوی کے زائرین کے لئے قبر نبوی کی زیارت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: ”قبر نبوی کی زیارت خاص طور سے مردوں کے لئے مشرع ہے، خواتین کے لئے کسی بھی قبر کی زیارت جائز نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور ان پر مسجدیں بنانے والے اور چراغاں کرنے والے مردوں پر لعنت بھیجی ہے۔ البتہ مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی اور دعا وغیرہ جیسے اعمال جو تمام مساجد میں مشروع ہیں ان کے لئے مدینہ کا رخت سفر باندھنا ہر ایک کے لئے مشروع ہے۔“

فصل نہم

ازدواجی زندگی کے خاص مسائل

ارشاد ربانی ہے:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

﴿يَئِنْكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

اس (کی قدرت) کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور فکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ (الروم: ۲۱)۔

﴿وَأَنِّي كُحْوَا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ

﴿يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ﴾

”تم میں سے جو مرد و عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لوٹدیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنادے گا، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ (النور: ۳۲)

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اس میں ایک طرح سے شادی کرنے کرانے کا حکم دیا گیا ہے، صاحب استطاعت و قدرت شخص کے حق میں اہل علم کی ایک جماعت شادی کے وجوب کی قائل ہے، وہ حدیث کے ظاہری معنی سے استدلال کرتی ہے جس میں رسول اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

((بِاَمَّا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَعَضُّ

لِبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ))

”نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے شادی کر لینا چاہئے، کیونکہ شادی نگاہوں کو پست رکھنے اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی ہے، اور جس کو طاقت نہ ہو اسے روزہ رکھنا چاہئے، اس لئے کہ روزہ اس کی قوت شہوت کو توڑنے والا ہے۔“

اس حدیث کو امام بخاری و امام مسلم رحمہما اللہ نے اپنی صحیحین کے اندر حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے)

اس کے بعد علامہ موصوف نے مذکورہ آیت کے مکمل سے ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (النور: ۳۲)۔

”اگر وہ مغلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے

گا، سے استدلال کرتے ہوئے زواج کو معاشی خوشحالی کا سبب قرار دیا ہے اور اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل آثار نقل کئے ہیں:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: ”شادی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاؤ، اللہ تعالیٰ نے تم سے معاشی فراوانی کا جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ﴾ (النور: ۳۲)

”اگر مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنادے گا، اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے۔“

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: ”نکاح (شادی) میں اقتصادی خوشحالی تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ﴾ (النور: ۳۲)

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں: ”اس اثر کو علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور اسی معنی و مفہوم کا ایک اثر علامہ بغوی رحمہ اللہ نے عمر بن الخطاب سے نقل کیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ۹۵-۹۳/۵ مطبوعہ دارالاندلس)۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ (۹۰/۳۲) میں لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے موننوں کے لئے شادی اور طلاق کو مباح قرار دیا ہے،

چنانچہ اسلام میں دوسرے مرد سے شادی کر لینے اور اس کے طلاق دے دینے کے بعد اپنی مطلقہ عورت سے شادی کی اجازت ہے، لیکن نصاریٰ آپس میں ایک دوسرے پر شادی کو حرام قرار دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس کو مباح قرار دیا ہے، انہوں نے طلاق کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہود طلاق کی اجازت دیتے ہیں لیکن مطلقہ اگر کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لیتی ہے تو ان کے نزدیک پہلے شوہر پر وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اس طرح نصاریٰ کے یہاں طلاق نہیں ہے، اور یہود کے یہاں دوسرے مرد سے شادی کر لینے کے بعد مطلقہ عورت کا رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن مونوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو جائز و مباح قرار دیا ہے۔

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ الحمدی النبوی (۱۳۹/۳) میں ازدواجی زندگی کے ایک اہم مقصد جماع (میاں بیوی کی صحبت) کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں: ”جماع در حقیقت تین امور کے لئے بنایا گیا ہے اور انہی تینوں امور کو جماع کے اصل اور بنیادی مقاصد کی حیثیت حاصل ہے:

- (۱) نسل کا تحفظ و بقاء اور اس کا استمرار و دوام، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مقدار کردہ تعداد دنیا میں ظاہر ہو کر مکمل ہو جائے۔
- (۲) اس پانی کا اخراج جس کارک جانا اور جمع ہو جانا پورے جسم اور بدن

کے لئے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔

(۳) شہوت پوری کرنا، لذت حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے

لطف اندوز ہونا،

شادی کے متعدد عظیم فوائد ہیں، سب سے بڑا اور اہم فائدہ یہ ہے کہ
شادی زنا جیسے برے عمل سے بچاؤ اور محترمات کی جانب بری نگاہ اٹھانے سے
تحفظ فراہم کرتی ہے۔

شادی ہی کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے نسل کی بقاء، حسب
ونسب کی حفاظت اور میاں بیوی کے مابین قلبی سکون اور روحانی طہانت حاصل
ہوتی ہے۔

مسلم معاشرہ میں جس صالح اور مثالی خاندان کو ایک اہم عضر کی حیثیت
حاصل ہے، اس کی تشکیل کے لئے زوجین کے درمیان باہمی تعاون کا حصول
شادی کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔

اسی شادی کے ذریعہ ہی شوہر بیوی کی کفالت اور اس کو تحفظ فراہم کرنے
کی ذمہ داری کو نبھاتا ہے اور بیوی گھر یو ذمہ داری کو ادا کرتی ہے۔ اسی شادی
کے ذریعہ ایک عورت کو کاروبار حیات میں اپنی مناسب اور صحیح کارکردگی کے
مظاہرہ کا موقع ملتا ہے۔ یہ دعویٰ کہ گھر سے باہر نکل کر سروں کرنے میں عورت

مرد کے ہمسر اور برابر کی شریک ہے درحقیقت یہ خود عورتوں اور انسانی معاشرہ کے دشمنوں کا دعویٰ ہے جنہوں نے عورتوں کو گھر کی چہار دیواری سے نکال کر ان کو ان کی اپنی حقیقی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا ہے، انہیں دوسروں کا عمل اور ان کا عمل دوسروں کو سونپ دیا ہے جس کی پاداش میں خاندانی نظام درہام براہم ہو کر رہ گیا ہے، میاں بیوی کے درمیان حسن مفاہمت کی بجائے سوء تفاہم کی خلیج حائل ہو گئی ہے جو بیشتر حالات میں آپس کی جدائی یا ناپسندیدہ اور پریشان کن زندگی گذارنے کا سبب بنتی ہے۔

استاد محترم شیخ محمد امین شنقطي رحمہ اللہ اپنی تفسیر اضواء البيان (۳۲۲/۳) میں فرماتے ہیں: ”علوم ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب اور پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام معاملات اور شعبہ ہائے حیات میں مرد وزن کے درمیان برابری اور مساوات کا نظریہ غلط اور باطل ہونے کے ساتھ عقل منطق، وحی آسمانی اور شریعت الہی کے بالکل مخالف و منافی ہے، اس کے سبب سے معاشرتی نظام میں جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ ہر ایک کے لئے ظاہر اور عیاں ہے، محض اسی شخص پر یہ فساد و بگاڑ مخفی ہو سکتا ہے جس کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ان کی اپنی مخصوص صفات کے ساتھ پیدا کر کے انسانی معاشرہ کی تشکیل میں متعدد

ساجھی داری اور مشارکت کے لائق اور مناسب بنایا کہ ان کے علاوہ دوسرے ان کاموں کیلئے موزوں و مناسب ہو، تی نہیں سکتے تھے جیسے حمل، ولادت، رضاعت، بچوں کی تربیت، گھر کی خدمت، کھانا پکانے، آٹا گوندھنے، جھاڑو دینے جیسی گھریلو ذمہ داریوں کا بجالانا، یہ ساری ذمہ داریاں جن کو خواتین اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر رہ کر مکمل پرداز، تحفظ، عفت و پاکداری، اپنی شرافت و کرامت اور انسانی اقدار کی رعایت کرتے ہوئے انجام دیتی ہیں، معاش کی خاطر مردوں کی نگہ و دو سے کسی طرح کم نہیں ہوتی ہیں، لہذا ان گئے گذرے جاہل کفار اور ان کی تقلید کرنے والوں کا یہ دعویٰ کہ عورتوں کو بھی گھروں سے باہر نکل کر کام کرنے کے سلسلے میں وہی حقوق حاصل ہیں جو مردوں کو حاصل ہیں، اس دعویٰ میں انسانی اقدار اور دین دونوں کا ضیاء ہے، جبکہ خواتین ایام حمل و رضاعت، اور نفاس میں کسی با مشقت ڈیوبٹی کو ادا کرنے کی قوت و طاقت نہیں رکھتی ہیں، یہ عام مشاہدہ کی بات ہے، اگر عورت اور اس کا شوہر دونوں ہی گھر سے باہر کام کے لئے نکل جائیں گے تو چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال، شیر خوار بچوں کو دودھ پلانے اور ڈیوبٹی سے فراغت کے بعد مردوں کی گھر واپسی کے وقت ان کے لئے کھانا وغیرہ کی تیاری جیسی ذمہ داریاں معطل ہو کر رہ جائیں گی، اگر کسی شخص کو اس عورت کی جگہ اجرت پر رکھ

دیا جائے تو وہ شخص خود اس گھر کے اندر اسی تعطل کا شکار ہو کر رہ جائے گا جس تعطل سے فرار اختیار کرنے کے لئے عورت نے گھر سے باہر قدم نکالا تھا،
علاوہ ازیں کام کے لئے عورت کا گھر سے باہر نکلنا اور اسے ہر طرح کے
کاموں میں گھسیٹنا اس میں انسانی اقدار اور دین دونوں کا ضیاء ہے۔

اہذا مسلم بہنوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے اور اس فتنم کے باطل
پروپیگنڈوں کے قریب نہیں جانا چاہئے کیونکہ ان پروفیریب پروپیگنڈوں سے
متاثر ہونے والی خواتین کے حالات ہی ان پروپیگنڈوں کی ناکامی اور ان
کے بطلان کی بہتر دلیل ہیں، کہا جاتا ہے کہ تجربات واضح برہان کی حیثیت
رکھتے ہیں۔

مسلم بہنوں کو اپنے عنفوان شباب ہی میں عمر ضائع ہونے سے پہلے شادی
کے سلسلہ میں جلد بازی سے کام لینا چاہئے جب کہ وہ مردوں کی نظر و میں
قابل رغبت ہوں، تعلیم جاری رکھنے یا سروس پر برقرار رہنے کی خاطر شادی کو
کبھی بھی موخر نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ کامیاب ازدواجی زندگی ہی میں ان کی
سعادت اور سکون مضمرا ہے، شادی کے ذریعہ تعلیم یا سروس کے نقصانات کی
تلافی کی جاسکتی ہے لیکن تعلیم یا سروس خواہ وہ جس مقام و معیار کی ہو، شادی کا
تبادل نہیں ہو سکتی، انہیں اپنی گھر یا ذمہ داریوں کو بجالانے اور اپنے بچوں کی

تربيت کرنے میں پوری توجہ سے کام لینا چاہئے۔ یہی ان کا بنیادی عمل ہے جوان کی زندگی میں کار آمد اور نفع بخش ہے۔ لہذا شادی کے مقابلہ میں کسی تبادل کی تلاش میں نہیں رہنا چاہئے، کوئی دوسری چیز اس کے مساوی نہیں ہو سکتی، نیک بخت اور صالح شخص سے شادی کرنے میں کسی قسم کی تسلی اور تاخیر نہیں برتنی چاہئے اس لئے کہ رسول اکرم ﷺ کا فرمان مبارک ہے:

(إِذَا أَتَأْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَانْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُونُ فِتْنَةً

فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ)

”جب تمہارے پاس کوئی شخص آئے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن اور راضی ہو تو اس سے (اپنی بچیوں کی) شادی کردو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہو گا اور زبردست طریقے سے فساد اور برائی پھیلے گی“۔ (اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے، اس کے متعدد شواہد بھی ہیں)۔

☆ شادی کے لئے عورت کی رضامندی:

جس خاتون کی شادی مقصود ہوتی ہے اس کی تین حالتوں میں سے کوئی

ایک حالت ہوگی:

(۱) یا تو وہ کم سن با کرہ (غیر شادی شدہ) ہو گی۔

(۲) یا وہ بالغہ باکرہ ہوگی۔

(۳) یا وہ شیبہ ہوگی یعنی جس کی پہلے شادی ہو چکی ہوگی، اور ہر ایک کے لئے الگ مخصوص حکم ہے:

۱- کم سن باکرہ (غیر شادی شدہ) کے بارے میں علماء کے ما بین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے والد کو اس کی شادی کا حق حاصل ہے، کیونکہ کم سن بچی کی اجازت کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی لخت جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی رسول اکرم ﷺ سے چھ سال کی عمر میں کی تھی اور نو سال کی عمر میں ان کی رخصتی کر دی تھی۔ (متفق علیہ)

علامہ شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار (۱۲۸-۱۲۹) میں لکھتے ہیں: ”مذکورہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بلوغت سے قبل باپ کو بیٹی کی شادی کر دینے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔“

مزید لکھتے ہیں: ”یہی حدیث اس امر پر بھی دال ہے کہ کم سن لڑکی کی شادی بڑی عمر کے مرد سے کی جاسکتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اسی پر ایک باب قائم کیا ہے، اور اس باب کے تحت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری

میں اس امر پر اجماع نقل کیا ہے۔

علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ الْمَغْنی (۳۸۷/۶) میں تحریر کرتے ہیں : ”علامہ ابن المندز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام اہل علم جن سے ہم نے علم اخذ کیا ہے ان کا اس امر پر اجماع ہے کہ والد اپنی کم سن لڑکی کی شادی کر سکتا ہے بشرطیکہ اس نے شادی میں کفوں کا لحاظ رکھا ہو۔“

میں (یعنی مؤلف) کہتا ہوں : حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ۲ سال کی عمر میں رسول اکرم ﷺ سے شادی کرنے میں ان لوگوں کی سخت تردید پائی جاتی ہے جو کم عمر بچیوں کی بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ شادی پر نکیر کرتے ہیں اور ناک بھوں چڑھاتے ہیں، کتاب و سنت سے جہالت کی بنا پر یا اس کے پیچھے غلط مقاصد کا فرمایا ہونے کی وجہ سے اسے غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے ایک منکر کا متصور کرتے ہیں۔

- باکرہ (غیر شادی شدہ) بالغہ عورت کی شادی اس کی رضا مندی اور اجازت کے بغیر نہیں کی جا سکتی، اور اس کی خاموشی کو اجازت تصور کیا جائے گا، کیونکہ ارشاد نبوی ہے :

(لَا تُنَكِّحُ الْبِنْجُرُ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْتُكْتَ) (متفق علیہ)

”باکرہ عورت کی شادی اس کی اجازت حاصل کئے بغیر نہیں کی جاسکتی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کی کیسے اجازت حاصل کی جائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش رہے۔“

لہذا اہل علم کے صحیح قول کے مطابق باکرہ بالغہ عورت سے اس کی شادی کی رضا مندی اور اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، خواہ اس کی شادی کرنے والا اس کا والد ہی کیوں نہ ہو۔

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ الحمدی النبوی (۹۶/۵) میں لکھتے ہیں:

”جمهور سلف اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہما اللہ کا ایک روایت کے مطابق یہی قول ہے، یہی ہمارے نزدیک بھی راجح ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قول ہم نہیں اختیار کرتے، کیونکہ یہی رسول اللہ ﷺ کے فرمان امر و نہی کے مطابق و موافق ہے۔“

۳- شادی شدہ عورت کی (دوسری) شادی بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کی جاسکتی، البتہ اسکی اجازت صریح الفاظ (ہاں یا نہیں) میں حاصل کی جائے گی، برخلاف باکرہ (غیر شادی شدہ) عورت کے، کہ اس کی خاموشی ہی کو اجازت تصور کیا جائے گا۔ المغنی (۲۹۳/۶) میں مذکور ہے: ”اس سلسلے میں

اہل علم کے مابین ہمیں کسی اختلاف کا پتہ نہیں ہے کہ شادی شدہ عورت کی اجازت صریح الفاظ میں حاصل کی جائے گی، کیونکہ اس بارے میں واضح حدیث وارد ہے اور اس وجہ سے بھی کہ زبان ہی دل کی ترجمان ہے، اور اسی کا ہر ایسے مقام پر اعتبار ہوتا ہے جہاں اجازت کی ضرورت پڑتی ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی (۳۲/۳۹-۴۰) میں تحریر فرماتے ہیں: ”کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کی شادی اس کی اجازت حاصل کئے بغیر کسی سے کر دے، یہی رسول اکرم ﷺ کی تعلیم ہے، اگر عورت کسی شخص سے شادی کو ناپسند کرتی ہے تو اسے اس شخص سے شادی پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے، ہاں کم سن لڑکی کی شادی اس کا والد اجازت کے بغیر کر سکتا ہے، لیکن شادی شدہ بالغہ عورت کی شادی اجازت کے بغیر نہ تو باپ کر سکتا ہے اور نہ باپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص، اس مسئلہ میں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اسی طرح بالغہ باکرہ (غیر شادی شدہ) عورت کی شادی باپ اور دادا کے علاوہ کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، اس پر بھی مسلمانوں کا اجماع ہے، باپ اور دادا کو بھی اس سے اجازت حاصل کرنی چاہئے، لیکن علماء کے مابین اس اجازت کے حکم میں اختلاف ہے، آیا یہ واجب ہے یا مستحب؟ صحیح قول کے مطابق اجازت حاصل کرنا ان دونوں پر

بھی واجب ہے۔ ولی الامر کو اس شخص کے متعلق خوف الٰہی اور تقویٰ کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جس سے وہ اپنی لڑکی کی شادی کرنے جا رہا ہے اور اس امر کی رعایت بہت ضروری ہے کہ کیا وہ لڑکی کا کفو بن سکتا ہے یا نہیں؟ لڑکی کی مصلحت اور اس کے مفاد کو پیش نظر رکھ کر اس کی شادی کرنی چاہئے نہ کہ اپنے مفاد اور اپنی مصلحت کی خاطر کسی بھی شخص کے ساتھ شادی کرنی چاہئے۔

☆ لڑکی کی شادی میں ولی الامر کی شرط:

عورت کو اپنے موافق و مناسب شوہر کے انتخاب و اختیار کا جو حق دین اسلام نے عطا کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اس بات کی مکمل چھوٹ اور آزادی دیدی گئی ہے کہ جس سے چاہے وہ شادی کر سکتی ہے، خواہ اس کی اس شادی کی وجہ سے اعززا و اقربا اور اہل خاندان کی عزت و آبرو پر کسی قسم کی آنچ ہی کیوں نہ آئے، بلکہ اسے ایک ایسے ولی سے مربوط کیا گیا ہے جس کی زیر نگرانی وہ اپنے شوہر کا انتخاب کرے گی، ولی اس کی صحیح رہنمائی کرے گا اور عقد نکاح کا وہی ذمہ دار ہوگا، اسی کے ہاتھوں عقد کے تمام امور انجام پائیں گے، عورت کو از خود شادی کرنے یا عقد نکاح کا حق حاصل نہیں ہے، اگر وہ از خود عقد نکاح کا عمل انجام دیتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہوگا، کیونکہ سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مردی ایک حدیث میں آتا ہے:

«أَيُّمَا أَمْرَأٌ نَكَحْتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فِنْكَاحُهَا بَاطِلٌ،

فِنْكَاحُهَا بَاطِلٌ، فِنْكَاحُهَا بَاطِلٌ»

”جس عورت نے از خود اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔“ - (امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے)۔

سنن اربعہ ہی میں یہ حدیث بھی مردی ہے: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَىٰ) ”بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے۔“

مذکورہ دونوں حدیثوں اور اس معنی و مفہوم کی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر ولی کے نکاح صحیح ہی نہیں ہوتا، کیونکہ کسی حکم کی نفی میں اصل صحت کی نفی ہوتی ہے۔

امام ترمذی کا ارشاد ہے: ”اسی حدیث پر اہل علم کا عمل ہے جن میں حضرت عمر، علی، ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ بھی شامل ہیں، اسی طرح فقهاء تابعین سے بھی مردی ہے کہ بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہوتا۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ ملاحظہ ہو: المعنی (۲۳۹/۲)۔“

☆ نکاح کے اعلان کی غرض سے عورتوں کا دف بجانا:

نکاح کا اعلان اور اسے لوگوں کے مابین شہرت دینے کے لئے عورتوں کا
دف بجانا مستحب ہے، بشرطیکہ یہ محض عورتوں کے درمیان ہو، اور اس میں موسیقی
یا دیگر آلات لہو و لعب نہ ہوں، اور نہ ہی پیشہ درگانے والیوں کی آواز اس
میں شامل ہو۔ اس موقع پر اشعار پڑھنے اور گیت گانے میں کوئی حرج نہیں ہے،
شرطیکہ مردوں تک اس کی آواز نہ پہنچے، رسول اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

(فَصُلُّ مَا يَئِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامُ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النَّكَاحِ)

”نکاح میں حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف کا بجانا

اور گیت گانا ہے۔“

اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے
اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔

علامہ شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار (۲۰۰/۶) میں لکھتے ہیں: ”یہ حدیث
دلیل ہے کہ نکاح (شادی بیاہ) میں دف بجانا، بآواز بلند گیت گانا جیسے
”أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ...“، وغیرہ جائز ہے (۱) بشرطیکہ ایسے گیت نہ ہوں جن سے

(۱) سنن ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک دہن کی رخصتی
کے موقع پر کہا تھا: کیوں نہیں تم لوگوں نے اس کے ساتھ کسی عورت کو بھیج دیا جو جا کر گاتی ”أَتَيْنَاكُمْ
أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّنَا وَ حَيَّا كُمْ“، یعنی ہم تمہارے پاس آئے ہم تمہارے پاس آئے، ہمارا تمہارے پاس
آنا ہم کو اور تم کو مبارک ہو“ (متترجم)

شروع فساد کو ہوا ملتی ہو، یا جن میں حسن و جمال، فسق و فجور اور جام و جم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو، کیونکہ یہ تمام چیزیں نکاح (شادی بیاہ) میں ویسے ہی حرام ہیں جس طرح عام موقوعوں پر حرام ہیں، اسی طرح دیگر تمام حرام اہو ولعوب کی چیزیں حرام و منوع ہیں۔

مسلمان خواتین کو شادی بیاہ کے موقع پر زیورات اور کپڑوں کی خریداری میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ یہ اس اسراف کے قبیل سے ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے اور بتلا دیا ہے کہ وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ارشاد ربانی ہے:

﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الانعام: ١٤١)

”اور حد سے مت گذرو، یقیناً وہ حد سے گذرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔“
لہذا انہیں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتے ہوئے فخر و مبارکات سے دور رہنا چاہئے۔

☆ خاوند کی اطاعت واجب اور اس کی نافرمانی حرام ہے:
مسلم خواتین پر اپنے شوہر کی بھلے اور نیک کاموں میں اطاعت و فرمان برداری واجب ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

((إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا

دَخَلَتِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ)) (صحیح ابن حبان)۔

”اگر عورت نے اپنی پہلو قوتہ فرض نمازیں ادا کر لیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور شوہر کی اطاعت و فرماں برداری کی تو جنت میں جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی“۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی دوسری حدیث مردوی ہے کہ رسول

اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا يُأْذِنُهُ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا يُأْذِنُهُ)

”کسی عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں نفلی روزے رکھے مگر اپنے شوہر کی اجازت سے، اور نہ اپنے شوہر کے گھر میں (کسی غیر کو آنے کی) اجازت دے مگر اپنے شوہر کی اجازت سے“۔ (بخاری و مسلم)۔

آپ ہی سے تیسرا حدیث بھی مردوی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا

لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) (بخاری و مسلم) وغیرہ۔

”اگر آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اور وہ نہیں آتی ہے جس کی وجہ سے شوہر اس پر ناراض ہو کر رات گذارتا ہے تو فرشتے اس (عورت) پر صبح ہونے تک لعنت بھجتے ہیں۔“

بخاری و مسلم کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد

فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاسِيْهِ فَتَابَى عَلَيْهِ
إِلَّا كَانَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ سَاقِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضِيَ عَنْهَا)) -

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جو بھی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اور وہ انکار کرتی ہے تو وہ ذات جو آسمان پر ہے اس عورت پر ناراض رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔“

عورت کے اوپر عائد شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اس کے گھر کی حفاظت و نگرانی کرے اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، ارشاد نبوی ہے:

(وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتٍ رَوْجِهَا وَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّهَا) (بخاری و مسلم)۔

یعنی ”عورت اپنے شوہر کے گھر کی محافظ و نگہبان ہے اور اس سے اس

کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

نیز اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ گھر کے تمام کام کو از خود انجام دے، کسی ایسی خادمہ کو باہر سے بلانے پر شوہر کو مجبور نہ کرے جس سے وہ پریشانی میں بٹلا ہو اور اس کی بنا پر خود اسے یا اس کی اولاد کو فتنہ سے دو چار ہونا پڑے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی (۲۶۰-۲۶۱/۳۲) میں لکھتے ہیں: ”فرمان اللہ:

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَاتِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ (النساء: ۳۴) -

”پس نیک عورتیں اطاعت شعار ہوتی ہیں اور خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت اللہ نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔“

آیت مبارکہ اس امر کی متقاضی ہے کہ عورت کے اوپر اپنے شوہر کی خدمت گذاری، اس کے ساتھ سفر، اپنے آپ کو اس کے قابو میں دینے (یعنی لطف اندوز ہونے کے لئے) اور دیگر امور میں مطلق اطاعت واجب ہے، رسول اللہ ﷺ کی سنت مبارکہ سے بھی اسی کا پتہ چلتا ہے۔“

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ الھدی النبوی (۱۸۸-۱۸۹/۵) میں فرماتے ہیں:

”خاوند کی خدمت گذاری کو جن علماء نے عورت پر لازم اور واجب قرار دیا ہے ان کا استدلال اس امر سے بھی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا

مخاطب بنایا ہے ان کے نزدیک یہی چیز معروف تصور کی جاتی ہے، لیکن شوہر کا عورت کو آرام پہنچانا، اس کی خدمت گذاری کرنا، جھاڑو دینا، آٹا گوندھنا، کپڑا دھونا، بستر لگانا اور گھر بیلو ذمہ داریوں کو بجالانا منکر (ناپسندیدہ) کاموں میں شمار کئے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرہ: ۲۲۸)

”اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔“

اور ارشاد فرماتا ہے:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾

”مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔“ (النساء: ۳۳)

اب اگر عورت شوہر کی خدمت نہ کرے بلکہ شوہر ہی عورت کا خادم بن کر رہے تو عورت کو مرد پر قوامیت (حاکمیت) حاصل ہوگی۔“

مزید فرماتے ہیں: ”عورت سے استفادہ اور اس کی خدمت گذاری کے عوض مرد پر عورت کے نان و نفقة، سکنی اور اس کے لباس وغیرہ کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے، مزید برآں کسی بھی دو شخص کے مابین طے پانے والے عام معاهدہ کو عرف عام پر ہی محمول کیا جاتا ہے، اور عرف عام میں خدمت گذاری اور اندر وون

خانہ کی ضروریات کی انجام دہی عورت کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔

آگے مزید لکھتے ہیں: ”اس سلسلے میں شریف وغیر شریف، فقیر و مالدار کے درمیان تفریق کو روا رکھنا درست نہیں ہے، دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے شریف خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی تھیں، انہوں نے نبی کریم ﷺ کے سامنے حاضر ہو کر خدمت گزاری کی شکایت کی، لیکن آپ ﷺ نے ان کی شکایت نہیں سنی“۔

☆ اگر عورت اپنے خاوند کی جانب سے بے رحمتی اور بے توجیہ محسوس کرنے کے باوجود اس کی زوجیت میں باقی رہنا چاہتی ہے تو اس کے لئے کیا کرے؟

فرمان الٰہی ہے:

﴿وَإِنِ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلَهَا نُشُوزًاً أَوْ إِعْرَاضًاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

”اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بد سلوکی اور بے رحمی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں، صلح بہت بہتر چیز ہے“۔ (النساء: ۱۲۸)۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اگر عورت کو اندیشہ لاحق ہو جائے

کہ کہیں اس کا خاوند اس سے بے رغبتی اور عدم تو جبی نہ برتنے لگے تو اس کے لئے جائز ہے کہ شوہر کے اوپر عائد اپنے جملہ حقوق یا بعض حقوق جیسے نان و نفقة، لباس یا اس کے ساتھ شب باشی سے دست بردار ہو جائے، اگر عورت ایسا کرتی ہے تو خاوند کو بھی اس کی بات قبول کر لینی چاہئے، شوہر کی رفاقت حاصل کرنے کے لئے حقوق سے دست برداری میں عورت پر کوئی حرج نہیں ہے، اسی واسطہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ﴾

”دونوں آپس میں جو صلح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں، صلح بہت

بہتر چیز ہے۔“ (النساء: ۱۲۸)

یعنی آپس کی مصالحت جدائی اختیار کرنے سے بہتر ہے۔

اس کے بعد موصوف رحمہ اللہ نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب وہ عمر دراز ہو گئیں اور رسول اللہ ﷺ نے ان سے جدائی کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے اس بات پر مصالحت کر لی کہ آپ ﷺ ان کو اپنی زوجیت میں باقی رکھیں اور وہ اپنی باری سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق میں دست بردار ہو جاتی ہیں، رسول اکرم ﷺ نے حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کی اس پیشکش کو قبول فرمایا کہ انہیں اپنی

زوجیت میں باقی رکھا۔ (تفسیر ابن کثیر ابن حیثام ۲۰۶/۲)۔

☆ اگر عورت کو خاوند ناپسند ہو اور اس کی زوجیت میں نہ رہنا چاہتی ہو تو کیا کرے؟

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقْيِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدُتُمْ﴾

بِهِ ﴿البقرة: ۲۶۹﴾

”اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لئے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں ہے۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر (۱/۲۸۳) میں فرماتے ہیں:

”اگر میاں بیوی میں ناچاقی پیدا ہو جائے اور عورت شوہر کے حقوق بجالانے میں ناپسندیدگی کی وجہ سے کوتاہی کرتی ہو، اور اس کے ساتھ گذر بسر کی اپنے اندر طاقت و استطاعت نہ پاتی ہو تو عورت کے لئے جائز ہے کہ خاوند کے دیئے ہوئے مال و متع کو واپس دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کر لے، شوہر کے دیئے ہوئے مال کو واپس کرنے میں عورت پر کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ اسے قبول کرنے میں شوہر پر کوئی مضافات ہے۔“

اور اسی کو اصطلاح شریعت میں خلع کہا جاتا ہے۔

☆ بغیر کسی عذر کے شوہر سے جدائی اختیار کرنے والی عورت کے بارے

میں وعید:

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

(أَيُّمَا امْرَأَةٌ سَالَتْ رَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)

”اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی عذر کے بغیر طلاق کی طالب ہوتی

ہے تو اس پر جنت کی مہک حرام ہو جاتی ہے۔“

(ابوداؤد، ترمذی اور ابن حبان نے اس کو اپنی صحیح میں حسن کہا ہے)۔

اس لئے کہ حلال اور مباح چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، بوقت ضرورت ہی طلاق کی راہ اپنائی جاسکتی ہے، لیکن بغیر ضرورت کے یہ مکروہ ہے، کیونکہ طلاق کی وجہ سے متعدد واضح ترین نقصانات لازم آتے ہیں، اور جس ضرورت کے تحت عورت خاوند سے طلاق کے لئے مجبور ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر عائد خاوند کے حقوق کی ادائیگی مکمل طور پر نہ کر پاتی ہو جس کی بناء پر شوہر کی زوجیت میں باقی رہنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة: ۲۲۹)

”یا تو اچھائی سے روکنا، یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا“۔

اور ارشاد فرماتا ہے:

﴿لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ فَإِنْ فَأُورَا فِإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ﴾

”جو لوگ اپنی بیویوں سے (تعلق نہ رکھنے کی) قسمیں کھائیں ان کے لئے چار مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق ہی کا قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جانے والا ہے“۔ (البقرہ: ۲۲۶، ۲۲۷)۔

☆ ازدواجی تعلق منقطع کر لینے کے بعد عورت کے واجبات:

زوجین کے درمیان جدائی کی دو صورتیں ہیں:

پہلی صورت: زندگی میں جدائی۔

دوسری صورت: موت کے ذریعہ جدائی۔

دونوں کی جدائیوں میں عورت پر عدت واجب ہو جاتی ہے، عدت کے معنی ہیں شرعی اعتبار سے ایک محدود مدت کے لئے عورت کا (شادی سے) رکے رہنا۔

عدت کی حکمت یہ ہے کہ یہ درحقیقت ایک نکاح کامل کے خاتمہ پر اس کے لقدس اور احترام کی رعایت ہے اور ساتھ ہی استبراء رحم (یعنی رحم کو حمل سے پاک و صاف دیکھنا) ہے، تاکہ جس نے اس عورت سے جداگانہ اختیار کی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس سے صحبت نہ کرے کہ مبادا اس سے (پیدا ہونے والے بچہ میں) اشتباه و احتلاط پیدا ہو جائے اور حسب و نسب کا ضیاع لازم آجائے۔ عدت میں پہلے عقد نکاح کا احترام ہے اور پہلے شوہر کے حق کا احترام و تقدير ہے اور ایک طرح سے اس کی جداگانہ پرتاثرات کا اظہار ہے۔ عدت کی چار قسمیں ہیں:

پہلی قسم: حاملہ عورت کی عدت، جو مطلق وضع حمل سے مکمل ہو جاتی ہے خواہ عورت مطلقہ باشہ ہو یا مطلقہ رجعیہ، زندگی میں جداگانہ اختیار کرنے والی ہو یا متوفی عنہا زوجہا (یعنی اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضْعَنَ حَمْلَهُنَّ﴾

”حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔“ (الطلاق: ۲)

دوسری قسم: ایسی مطلقہ عورت کی عدت جس کو حیض آتا ہو، یہ عدت تین حیض آنے سے مکمل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةٌ قُرُونٌ﴾ (البقرة: ٢٢٨)

”طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین قروء (حیض) تک روکے رکھیں،“ -
آیت مبارکہ میں (ثلاثۃ قروء) سے مراد تین حیض ہے۔

تیسرا قسم: ایسی عورت جس کو حیض ہی نہ آتا ہو، اس کی دو قسمیں ہیں:
کمن غیر حاضرہ اور عمر دراز جو حیض سے نا امید ہو چکی ہو، ان دونوں کی عدت
اللہ رب العزت نے اپنے اس فرمان میں بیان کر دی ہے:

﴿وَاللَّاتِيْ يَعِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَهُنْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ﴾

﴿أَشْهُرٍ وَاللَّاتِيْ لَمْ يَحْضُنَ﴾

”تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں
اگر تمہیں شبہ ہوتا ان کی عدت تین مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں
حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو،“ (الطلاق: ٣)۔

چوتھی قسم: متوفی عنہا زوجہا (یعنی ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا
ہو)، اللہ تعالیٰ نے اس کی عدت اپنے اس فرمان کے ذریعہ واضح کر دی ہے:

﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ﴾

﴿أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة: ٢٣٣)

”تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ

عورتیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن عدت میں رکھیں،۔
 یہ حکم مدخول بہا، وغیر مدخول بہا، کم سن اور عمر دراز سب کو شامل ہے، اس
 میں حاملہ عورت نہیں داخل ہو گی، کیونکہ دوسری آیت کے ذریعہ وہ خارج ہو
 جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَن يَضْعُنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (سورۃ الطلاق: ۴)

”حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔“

[الہدی النبوی مؤلفہ ابن القیم (۵۹۳/۵) (محقق ایڈیشن)]

☆ عدت گذار عورت پر کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟

۱- شادی کا پیغام:

الف- ایسی عورت جو طلاق رجعی کی عدت گذار رہی ہو اس کو شادی کا پیغام دینا صراحت کے ساتھ یا اشاروں کنایوں میں دونوں طرح سے حرام ہے، کیونکہ وہ ابھی بیوی کے حکم میں ہے، لہذا یہ جائز نہیں کہ کوئی اسے شادی کا پیغام دے، کیونکہ وہ ابھی تک اپنے شوہر کی زوجیت اور اس کی ماتحتی میں ہے۔

ب- غیر رجعی طلاق کی عدت گذار نے والی عورت کو صراحت کے ساتھ شادی کا پیغام دینا حرام ہے، البتہ اشاروں کنایوں میں اس کو شادی کا پیغام دیا جاسکتا ہے، ارشاد ربانی ہے:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (النساء: ٢٣٥)

”تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارہ کنایہ ان عورتوں سے شادی کی بابت کھو،۔

صراحت کے ساتھ شادی کا پیغام دینے کی شکل یہ ہے کہ اس عورت سے شادی کی رغبت ظاہر کی جائے، مثلاً کہا جائے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسی حالت میں شادی کی رغبت عورت کو وقت سے پہلے ہی عدت کے ختم ہونے کی اطلاع اور خبر دینے پر مجبور کر سکتی ہے، برخلاف اشارہ و کنایہ کے، کیونکہ اشاروں کنایوں میں شادی کی مکمل وضاحت نہیں ہوتی، لہذا ان پر کسی قسم کا محذور (ممنوع کام) مرتب نہیں ہوتا، اور پھر آیت کریمہ کا مفہوم بھی اسی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

اشاروں اور کنایوں میں شادی کا پیغام دینے کی شکل یہ ہے کہ اس عورت سے کہا جائے کہ میں تمہاری جیسی عورت کا خواہشمند ہوں۔ غیر رجعی طلاق کی عدت گزارنے والی عورت غیر صریح پیغام کا جواب اشارہ و کنایہ میں دے سکتی ہے، البتہ صریح پیغام کا جواب دینا اس کے لئے کسی طرح بھی درست نہیں ہے، اور رجعی طلاق کی عدت گزارنے والی عورت نہ تو صراحت کے ساتھ اور نہ ہی اشاروں کنایوں میں کسی طرح سے جواب دے سکتی ہے۔

۲- عدت گذار عورت کی شادی کسی دوسرے شخص سے کرنا حرام ہے،

کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَلْعَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (البقرہ: ۲۳۵)

”اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر (۵۰۹/۱) میں لکھتے ہیں: ”یعنی ان کا عقد نکاح نہ کرو یہاں تک کہ عدت پوری کر لیں، اس پر علماء کا اجماع ہے کہ عدت کے ایام میں دوسرा عقد صحیح نہیں ہے۔“

فائدہ:

۱- دخول (میاں بیوی کے اجتماع) سے پہلے طلاق دی گئی عورت پر عدت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ

أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾ (الاحزاب: ۳۹)

”اے مونمو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انھیں ہاتھ لگانے سے پہلے (ہی) طلاق دیو، تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں ہے جسے تم شمار کرو۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر (۲۷۹/۵) میں لکھتے ہیں:

”علماء کے مابین یہ ایک متفق علیہ امر ہے کہ اگر عورت کو دخول سے پہلے طلاق دے دی گئی تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، لہذا طلاق کے بعد فوراً جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے۔“

۲- اگر عورت کو دخول سے پہلے مہر کی تعین کے بعد طلاق دی گئی ہو تو اسے نصف مہر دیا جائے گا، اور اگر مہر کی تعین نہیں ہوئی تھی تو اسے کپڑے وغیرہ میں سے جو کچھ میسر ہو، دیا جائے گا۔ دخول کے بعد طلاق دینے کی صورت میں عورت کو مکمل مہر دیا جائے گا، فرمان الٰہی ہے:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ

فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ﴾ - إلى

قوله تعالى - ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ

لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيُضْفَفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (البقرہ: ۲۳۶، ۲۳۷)

”اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کئے طلاق دیدو، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں! انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ کی چیز دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگدست اپنی طاقت کے مطابق..... اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دیدو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہوا اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا دیدو۔“

یعنی اللہ تعالیٰ مردوں کو مخاطب کر کے فرمرا رہا ہے کہ زوجین کی صحبت اور مہر کی تعین سے پہلے طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس سے عورت کے جذبات کوٹھیس پہنچتی ہے، لیکن متنه کے ذریعے (یعنی انہیں کچھ مال و متعہ دے کر) اس کی بتائی ہو جاتی ہے، شوہر کی مالی حالت اور عرف عام کے اعتبار سے عورت کو ساز و سامان دینا ضروری ہے۔

اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسی عورت کا تذکرہ کیا ہے جس کے مہر کی تعین کی جا چکی ہے اور اسے دخول سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں نصف مہر دینے کا حکم دیا ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر (۱/۵۱۲) میں لکھتے ہیں: ”ایسی صورت حال میں (یعنی مہر کی تعین کے بعد) نصف مہر کا ادا کرنا علماء کے مابین ایک متفق علیہ مسئلہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔“

۳- شوہر کی وفات کے بعد عدت گذارنے والی عورت پر پانچ چیزیں حرام ہوتی ہیں:

(۱) تمام انواع و اقسام کی خوبیوں، نہ تو وہ اپنے جسم میں اور نہ ہی اپنے کپڑوں میں کسی قسم کی خوبیوں کے لئے گی اور نہ خوبیوں دار چیز استعمال کرے گی، کیونکہ رسول اکرم ﷺ سے صحیح حدیث میں ثابت ہے:

((لَا تَمْسُ طِينًا))

”اور عورت خوبیوں میں استعمال کرے گی۔“

(۲) جسمانی زیب و زینت: ایسی عورت کے لئے خضاب لگانا اس طرح

زیب و زینت کی تمام اشیاء جیسے سرمہ وغیرہ، اور جلد کو رنگنے والی انواع و اقسام کی چیزوں کا استعمال حرام ہے، البتہ اگر اس کو بطور علاج اور دوا کے سرمہ لگانے کی ضرورت پیش آجائے تو رات کے وقت سرمہ لگاسکتی ہے، لیکن دن میں اسے صاف کر دے گی، سرمہ کے علاوه غیر زینت کی چیزوں سے اپنی آنکھوں کا علاج کرسکتی ہے، اس میں کوئی مضائقہ یا حرج نہیں ہے۔

(۳) زیب و زینت کے لباس پہن کر زینت اختیار کرنا بھی منوع ہے،

ہر وہ لباس جس میں زیب و زینت نہ پائی جاتی ہو پہن سکتی ہے، اس سلسلے میں کوئی مخصوص رنگ معین نہیں ہے (لیکن مختلف معاشروں میں) مخصوص رنگ کے لباس کا استعمال عام طور پر لوگوں کی عادت بنتی جا رہی ہے (جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے)۔

(۴) انواع و اقسام کے زیورات، یہاں تک کہ انگوٹھی بھی نہیں استعمال

کرے گی۔

(۵) جس مکان یا منزل میں اپنے خاوند کی وفات کے وقت وہ تھی اس

کے علاوہ کسی دوسرے مکان میں یا گھر میں رات گزارنا اور اس گھر سے کسی شرعی عذر کے بغیر منتقل ہونا بھی جائز نہیں ہے، کسی مریض کی عیادت، یا کسی قریبی یا دوست کی ملاقات کے لئے اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی ہے، البتہ دن میں اپنے ضروری کاموں کے لئے نکل سکتی ہے۔

مذکورہ پانچ امور کے علاوہ کسی دیگر مباح امر سے عورت کو نہیں روکا جائیگا، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ الحمدی النبوی (۵۰/۷) میں تحریر فرماتے ہیں: ”(خاوند کے انتقال کی وجہ سے) عدت گزارنے والی عورت کو ناخن کاٹنے، بغل کے بال اکھاڑنے، غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے، بیری کی پتی کے پانی سے غسل کرنے، نیز کنگھی کرنے سے منع نہیں کیا جائے گا۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ (۳۳/۲۷-۲۸) میں تحریر فرماتے ہیں: ”ہر مباح چیز کا کھانا اس کے لئے جائز ہے، جیسے پھل اور گوشت وغیرہ، اسی طرح مباح مشروبات کا پینا بھی جائز ہے۔“

آگے مزید لکھتے ہیں: ”ایسی عورت کے لئے تمام مباح کام اور مشغله جیسے کڑھائی، سلاٹی اور کٹائی وغیرہ جن کو عموماً عورتیں انجام دیتی ہیں، حرام یا ممنوع نہیں ہیں، وہ سارے اعمال یا چیزیں جو غیر عدت میں اس کے لئے مباح تھیں عدت کے ایام میں بھی مباح ہوں گی، مثلاً جن مردوں سے اسے

گفتگو کی ضرورت پڑتی ہے ان سے وہ پردے کا خیال کرتے ہوئے گفتگو کر سکتی ہے۔ یہ تمام باتیں رسول اکرم ﷺ کی بتائی ہوئی سنت کی باتیں ہیں جن پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی بیویاں اپنے شوہروں کی وفات کے بعد (ایام عدت میں) عمل کرتی تھیں۔

عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ عدت گزار عورت چاند سے اپنے چہرہ کو چھپائے گی، گھر کی حپت پر نہیں چڑھے گی، مردوں سے گفتگو نہیں کرے گی اور اپنے محارم سے بھی اپنے چہرے کو چھپائے گی، یا اسی قبیل کی دیگر باتیں، تو حقیقتاً ان کی کوئی اصل یا بنیاد نہیں ہے، واللہ اعلم۔

فصل دہم

خواتین کی عزت و ناموس اور عرفت و شرافت کو تحفظ

فراءہم کرنے والے احکام و مسائل

۱- مردوں کی طرح خواتین کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی

حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، ارشادِ ربانی ہے:

﴿قُلْ لِلّٰهِ مُنِينَ يَغْصُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزَّكَى لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ☆ وَقُلْ لِلّٰهِ مُنِينَ يَغْضُضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَ﴾

”مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لئے زیادہ پاکیزگی ہے، لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے، اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔“ (النور: ۳۰، ۳۱)۔

استاذ محترم شیخ محمد امین شنقبطی رحمہ اللہ اپنی تفسیر اضواء البيان (۱۸۶/۲)

میں لکھتے ہیں: ”اللہ عزوجل نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو نگاہیں پست رکھنے، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت

میں زنا، لواط، سحاق (عورتوں کی ہم جنسی) اور بلا ضرورت انہیں لوگوں کے
سامنے ظاہر کرنے سے پرہیز کرنا اور محفوظ رکھنا داخل ہے۔

آگے مزید فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیئے گئے
احکامات کو بجالانے والے مردوں اور عورتوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ
فرمایا ہے بشرطیکہ وہ اس کے ساتھ سورہ الحزاب میں بیان کئے گئے احکامات کو
بھی بجالائیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ.....﴾ الی قوله ﴿وَالْحَافِظَاتِ﴾

وَالَّذَا كِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالَّذَا كِرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيْمًا﴾ (الحزاب: ۳۵)

”بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں،
فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبردار عورتیں، راست باز مرد اور
راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں،
عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے
والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ
رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت
کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے

والی عورتیں ان (سب) کے لئے اللہ نے (وسع) مغفرت اور بڑا
ثواب تیار کر رکھا ہے۔

علامہ شدقیطی رحمہ اللہ کے کلام میں وارد لفظ (سحاق) کے معنی ہیں: عورتوں
کی ہم جنسی کا عمل۔ یہ ایک سنگین جرم ہے جس پر دونوں عورتیں کڑی سزا اور
سخت تادیب کی مستحق ہیں۔

علامہ ابن قدامہ المغنی (۱۹۸/۸) میں لکھتے ہیں: ”اگر دو عورتیں ہم جنسی
کا عمل کرتی ہیں تو وہ دونوں زانی اور ملعون ہیں، کیونکہ رسول اکرم ﷺ کا
ارشاد ہے:

(إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ)

”جب دو عورتیں ہم جنسی کا عمل کرتی ہیں تو وہ دونوں زنا کا ارتکاب
کرنے والی ہوتی ہیں۔“

ان دونوں پر تعزیری حد جاری کی جائے گی، اس لئے کہ یہ ایسا زنا ہے جس
کے بارے کوئی متعین حد ثابت نہیں ہے۔ (۱)

(۱) شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی (۳۲۱/۵) میں فرماتے ہیں: اسی وجہ سے ہم جنسی کا
عمل کرنیوالی عورت زنا کار ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے (زِنَ النِّسَاءِ سَحَاقُهُنَّ) (دو عورتوں کا
زنا ان کا آپس میں ہم جنسی کا عمل ہے)۔

لہذا مسلم خواتین خصوصاً دو شیز اؤں کو اس قبیح عمل اور منکر عمل سے بچنا چاہئے۔
 نگاہیں پست رکھنے کے سلسلے میں علامہ ابن القیم اپنی کتاب الجواب
 الکافی (ص ۱۳۰-۱۲۹) میں تحریر کرتے ہیں: ”نگاہیں فخش کاری کا پیش خیمه اور
 جنسی شہوت بھڑکانے کا سبب بنتی ہیں، چنانچہ نگاہوں کی حفاظت در حقیقت
 شرمگاہوں کی حفاظت کی اصل بنیاد ہے، جس شخص نے اپنی نگاہیں آزاد چھوڑ
 دیں اس نے اپنے لئے ہلاکت کا سامان مہیا کیا، رسول اکرم ﷺ کا ارشاد
 مبارک ہے:

((يَا عَلِيُّ! لَا تُتْسِعِ النَّظَرَةَ النَّظَرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى))
 ”اے علی! نظر کے پچھے نظر نہ دوڑا، کیونکہ پہلی (اتفاقی) نگاہ تمہارے
 لئے معاف ہے۔“

حدیث میں پہلی نظر سے مراد اچانک پڑنے والی نگاہ ہے جو بغیر قصد
 واردہ کے واقع ہوتی ہے۔

مسند (احمد) میں رسول اکرم ﷺ سے مردی ہے:
 (النَّظَرَةُ سَهْمٌ مِّنْ سَهَامِ إِلَيْسَ)
 ”نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہراً لود تیر ہے۔“

آگے مزید لکھتے ہیں: ”انسان کو لاحق ہونے والی عام مصیبتوں اور

پریشانیوں کی اصل جڑ اور بنیاد نظر ہی ہوا کرتی ہیں، کیونکہ اسی نظر سے دلوں میں مختلف وسو سے پیدا ہوتے ہیں، وسو سے افکار و خیالات کو جنم دیتے ہیں، خیالات سے شہوت پیدا ہوتی ہے، شہوت اور جنسی ہیجان سے دل میں ارادہ جنم لیتا ہے جو زور پکڑتے ہوئے عزم مصمم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر لازمی طور پر آخری عمل انجام پاتا ہے جس سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ نگاہوں کو پست اور نچی رکھنے پر صبر کر لینا، بعد میں لاحق ہونے والی تکلیف پر صبر کرنے کی بہ نسبت زیادہ آسان ہے۔

مسلم خواتین کو مردوں کی جانب نظر اٹھانے، نیز میگزینوں، ٹیلیویژن یا ویڈیو پر پیش کی جانیوالی ہیجان انگیز تصویریوں کو دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہئے، اس سے برے انجام سے محفوظ رہیں گی، کتنی نظریں نظر والوں کے لئے افسوس وندامت کا باعث بنتی ہیں، چھوٹی چنگاری سے ہی آگ بھڑکتی ہے۔

۲- شرمگاہ کی حفاظت کے مختلف اسباب و وسائل میں سے ایک سبب اور وسیلہ یہ بھی ہے کہ گانے اور موسیقی کے سننے سے اجتناب کیا جائے، علامہ ابن القیم اغاثۃ المحتفان (۱/۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸) میں فرماتے ہیں: ”شیطان کے بے شمار جال ہیں جن کے ذریعہ کم علم، کم عقل، اور دین سے بیگانہ لوگوں کو اپنے دام فریب میں لیتا ہے اور جاہلوں اور باطل پرستوں کے دلوں کا شکار کرتا

ہے، انہی جالوں میں سے ایک جال منوع و حرام آلات لہو و لعب کے ذریعہ رقص و سرود اور گانے بجانے کا سماں ہے، جو کہ دلوں کو قرآن کریم سے پھیر دیتا ہے، نیز انہیں فشق و فجور اور عصیان و نافرمانی کا عادی اور رسیا بنا دیتا ہے، لہذا گانا بجانا درحقیقت شیطان کا قرآن ہے جس سے بندے اور اللہ تعالیٰ کے ماہین ایک دبیز پرده حائل ہو جاتا ہے، یہ لواط (اغلام بازی) اور زنا کے لئے جادو کا کام کرتا ہے، اسی کے وسوسے سے بد چلن اور بد کار عاشق اپنے معشوق سے اپنی آخری آرزو اور تمبا کو حاصل کر لیتا ہے۔

آگے مزید لکھتے ہیں：“عورت یا مرد (بغیر داڑھی موچھ کا نوجوان لڑکا) سے گانا سننا عظیم ترین محمرات میں سے ہے اور دین کو بر باد کرنے کا ایک بڑا سبب ہے۔”

یہ بھی لکھتے ہیں：“ایک باغیرت آدمی اپنے اہل و عیال کو گانا سننے سے اسی طرح روکتا اور منع کرتا ہے جس طرح انہیں شکوک و شبہات کے اسباب سے دور رکھتا ہے، اس طرح کے بد قماش لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب عورت مرد کے قابو میں نہیں آتی ہے تو مرد اسے گانا سنانے کی پوری کوشش کرتا ہے، گانا سننے کے بعد عورت نرم پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ آوازن کر بہت جلد اس کا اثر قبول کر لیتی ہے، اگر گانے کی آواز ہو گی تو اس کے اندر دو جانب سے

الفعال (اثر) پیدا ہو گا، ایک آواز کی جانب سے، دوم گانے کے معنی و مفہوم کی جانب سے، اب اس سحر آفرینی کے ساتھ ڈھول تاشہ، غزلیات اور نسوائی انداز میں پورے جسم کو بل دے کر رقص بھی جمع ہو جائیں تو اگر گانے کے ذریعے کوئی عورت حاملہ ہو سکتی ہے تو اس نوعیت کے گانے سے ضرور بالضور حاملہ ہو جائے گی، کتنی ہی شریف زادیوں نے محض گانوں کی وجہ سے عصمت فروٹی کی راہ اپنالی ہے۔

چنانچہ ایک مسلم خاتون کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوف اختیار کرنا چاہئے اور اس سنگین مہلک اخلاقی یماری سے پرہیز کرنا چاہئے جو آج مسلمانوں کے درمیان مختلف وسائل و ذرائع اور متعدد اسالیب اور انداز سے گانوں کی شکل میں پھیلتی جا رہی ہے، جن کو بہت سی نادان دو شیزادیں ان کے اصل مصادر و منبع سے طلب کر کے آپس میں ایک دوسرے کو بطور تحفہ (گفت) پیش کرتی ہیں۔

۳۔ شرمگاہوں کی حفاظت کے مختلف طرق و وسائل میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عورت کسی ایسے محرم کے بغیر سفر پر نہ نکلے جو اسے اوباشوں، بدکاروں اور آوارہ لوگوں کے برے ارادوں اور بربی نیتوں سے تحفظ فراہم کر سکے اور بچاسکے، محرم کے بغیر عورت کے سفر کرنے کی ممانعت میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں، انہی احادیث میں سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی

روایت کردہ حدیث بھی ہے جس میں رسول اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

(لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) (متفق علیہ)۔

”کسی محرم کی معیت کے بغیر عورت تین دن کی مسافت کا سفر طے نہ کرے۔“

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث بھی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں:

(أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ نَهَا أَنْ تُسَافِرِ الْمَرْأَةَ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا مَعَهَا

زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ) (متفق علیہ)

”نبی کریم ﷺ نے عورت کو شوہر یا محرم کی معیت کے بغیر دو دن یادو رات کی مسافت طے کرنے سے منع فرمایا ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث بھی ہے جس میں رسول اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

(لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا)

”کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی محرم کو ساتھ لئے بغیر ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا سفر طے کرے۔“ (متفق علیہ)۔

مذکورہ احادیث میں تین دن، اور ایک رات کی جو تحدید کی گئی ہے تو اس

سے مراد اس زمانہ کے وسائل نقل و حمل، پاپیادہ اور سوار یوں کی مسافت ہے،
تین دن، دو دن ایک دن، ایک رات یا اس سے بھی کم مسافت کی تحدید میں
مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں، تو علماء کرام نے اس اختلاف کا جواب یہ دیا
ہے کہ اس تحدید سے اس کا ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہروہ
سفر ہے جس پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے، اس سے عورت کو منع کیا گیا ہے۔

امام نووی صحیح مسلم کی شرح (۹/۱۰۳) میں لکھتے ہیں: ”حاصل کلام یہ ہے
کہ ہروہ مسافت جس پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے شوہر یا محرم کی معیت کے بغیر
اس کا سفر کرنے سے عورت کو منع کیا جائے گا، خواہ وہ تین دن ہو یا دو دن یا
ایک دن ہو، ایک ب瑞د ہو یا اس سے بھی کم ہو، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی
اللہ عنہما سے ایک حدیث مطلق سفر سے ممانعت میں وارد ہوئی ہے جس کو مذکورہ
احادیث کے بعد بالکل اخیر میں امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اس
کے الفاظ یہ ہیں:

(لَا تُسَافِرْ أَمْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)

”کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔“

یہ حدیث ان تمام مسافات کو شامل ہے جن پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے۔
جن لوگوں نے عورتوں کی ایک جماعت کے ساتھ فریضہ حج کی ادائیگی کے

لئے عورت کو سفر کرنے کی اجازت دی ہے، تو حقیقتاً یہ فتویٰ خلاف سنت ہے، امام خطابی رحمہ اللہ معاجم اسنن (۲/۲۷۶-۲۷۷) مطبوع مع تہذیب اسنن لابن القیم میں لکھتے ہیں: ”رسول اکرم ﷺ نے کسی مردِ محرم کی معیت کے بغیر عورت کے سفر کو منوع قرار دیا ہے، عورت کے سفر کے لئے جس شرط کو رسول اللہ ﷺ نے ضروری قرار دیا ہے اس کے فقدان کے باوجود سفر حج کے لئے عورت کے لکنے کو جائز قرار دینا خلاف سنت ہے، غیرِ محرم مرد کے ساتھ عورت کا سفر کرنا معصیت اور گناہ ہے، لہذا حج جو اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے اسے عورت پر معصیت اور گناہ کی طرف لے جانے والے کسی امر کے ذریعہ ضروری اور لازم قرار دینا جائز اور درست نہیں ہو سکتا۔“

میں (مؤلف) کہتا ہوں: ان لوگوں نے محرم کی معیت کے بغیر مطلق سفر کی اجازت عورت کو نہیں دی ہے، بلکہ انہوں نے صرف فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے اس کو سفر کی اجازت دی ہے، امام نووی (المجموع ۸/۲۳۹) میں فرماتے ہیں: ”نفلی حج، تجارت اور زیارت وغیرہ کے سفر میں محرم کے بغیر عورت کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔“

لہذا آج جو حضراتِ محرم کی معیت کے بغیر عورتوں کے ہر طرح کے سفر میں تساؤں برتنے ہیں، ان کی کوئی بھی قبل اعتماد عالم موافقت اور تائید نہیں

کرتا، ان کا یہ کہنا کہ محرم عورت کو ہوائی جہاز میں سوار کرنا دیتا ہے، جس شہر یا جس ملک میں وہ جانا چاہتی ہے وہاں پہنچنے کے بعد دوسرا محرم اس کا استقبال کر لیتا ہے اور اسے اتار لیتا ہے، چونکہ جہاز میں بکثرت مرد وزن مسافرین کی تعداد موجود ہوتی ہے، اس لئے ان کے خیال کے مطابق جہاز کا سفر قتوں سے مامون و محفوظ ہوتا ہے۔ ہم ان حضرات کے جواب میں عرض کریں گے: ہرگز نہیں، جہاز کا سفر بہ نسبت دیگر سواریوں کے زیادہ پر خطر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مسافروں کے مابین اختلاط ہوتا ہے، عین ممکن ہے عورت کو کسی مرد کے بغل میں بیٹھنا پڑے اور جہاز کو ایسے حالات سے دو چار ہونا پڑے جن کی وجہ سے اسے اپنے رخ کو کسی دوسرے ایر پورٹ کی جانب موڑنا پڑے جہاں عورت کو لینے والا کوئی نہ ہو، وہاں اس کو مختلف خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے، اور کسی ایسے شہر اور ملک میں عورت کا کیا حشر ہو گا جہاں نہ تو اس کا کوئی محرم ہے اور نہ اس شہر اور ملک سے وہ واقف ہے۔

- عفت و عصمت کو محفوظ رکھنے اور بچانے کا ایک طریقہ اور وسیلہ یہ بھی ہے کہ نا محرم شخص کے ساتھ عورت کو خلوت (تہائی) میں اکٹھا نہ ہونے دیا جائے، فرمان نبوی ہے:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِإِمْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا

ذُو مَحْرَمٍ مِّنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ)

”جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کسی ایسی عورت کے ساتھ تہائی میں نہیں ہونا چاہئے جس کے ساتھ اس کا محروم نہ ہو، اس لئے کہ ان دونوں کے علاوہ تیسرا شخص شیطان ہوتا ہے۔“

حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَا يَخْلُوْنَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَجِلُّ لَهُ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٍ)

”کوئی شخص کسی ایسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو جو اس کے لئے حلال نہیں ہے، اس لئے کہ تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، البتہ محروم اس کے ساتھ تہائی میں ہو سکتا ہے۔“

مجد ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مذکور متن میں لکھا ہے: ”ان دونوں حدیثوں کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی متفق علیہ حدیث میں یہ معنی گذر چکا ہے۔“

علامہ شوکانی نیل الاوطار (۱۲۰/۶) میں لکھتے ہیں: ”اجنبی عورت کے ساتھ تہائی میں اکٹھا ہونے کی حرمت پر علماء امت کا اجماع ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ حرمت کی علت وہی ہے جو

حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کی موجودگی دونوں کے لیے معصیت اور گناہ کے ارتکاب کا سبب بن سکتی ہے، محروم کی موجودگی میں اجنبی عورت کے ساتھ اکٹھا ہونا جائز ہے، کیونکہ اس کی موجودگی معصیت کے ارتکاب کے لئے رکاوٹ ہوگی۔

بعض خواتین اور ان کے سر پرست مختلف نوع کی خلوتوں (تہائیوں) کے سلسلے میں تساہل سے کام لیتے ہیں، انہی خلوتوں میں سے:

(الف) ایک یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کے رشتہ داروں کے ساتھ خلوت (تہائی) میں ہوتی ہے، ان کے سامنے اپنے چہرہ کو کھلا رکھتی ہے، حالانکہ یہ خلوت بہ نسبت دیگر خلوتوں کے زیادہ خطرناک اور سُعَدیّین ہوتی ہے، فرمان نبوی ہے:

(إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ)

”خواتین پر داخل ہونے سے گریز کرو، ایک انصاری صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حمو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: حمو موت ہے۔“ (امام احمد، بخاری اور ترمذی رحمہم اللہ نے اسے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے)۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: ”جمو“ کا معنی دیور (خاوند کا بھائی) بتلایا جاتا ہے، گویا آپ ﷺ نے دیور کے ساتھ خلوت کو ناپسند فرمایا ہے۔

حافظ ابن حجر فتح الباری (۳۳۱/۹) میں لکھتے ہیں: ”امام نووی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ خاوند کے قریبی رشتہ داروں جیسے والد، بچا، بھائی، بیٹے، بھتیجے اور چچیرے بھائی وغیرہ کو جمو کہا جاتا ہے، اس پر علماء لغت کا اتفاق پایا جاتا ہے۔“

مزید لکھتے ہیں: ”حدیث میں جمو سے باپ اور بیٹوں کو چھوڑ کر خاوند کے تمام اقارب مراد ہیں، باپ اور بیٹے چونکہ محارم میں داخل ہیں اس لئے ان کا عورت کے ساتھ خلوت میں ہونا جائز ہے، ان کے حق میں خلوت کو موت سے نہیں تعبیر کیا جاسکتا ہے۔“

فرماتے ہیں: ”تساہل سے کام لیتے ہوئے عموماً بھائی اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ خلوت میں ہو جاتا ہے، اس لئے آپ ﷺ نے اسے موت سے تشبیہ دی ہے، لہذا وہ ممانعت کا زیادہ مستحق ہے۔“

علامہ شوکانی نیل الاوطار (۱۲۲/۶) میں حدیث نبوی (الحمدو الموت) کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”بہ نسبت دیگر لوگوں کے اس سے زیادہ خطرہ اور خوف ہوتا ہے، جس طرح موت سے بہ نسبت دیگر چیزوں کے زیادہ خوف اور خطرہ ہوتا ہے۔“

لہذا ایک مسلمان خاتون کو اللہ سے خوف کرنا چاہئے اور اس معاملہ میں کسی قسم کی تسامی نہیں برتنی چاہئے اگرچہ بیشتر لوگ اس میں تسامی سے کام لیتے ہیں، کیونکہ اعتبار شریعت کے احکام کا ہے نہ کہ لوگوں کی عادات و اطوار کا۔

(ب) بعض خواتین اور ان کے سر پرست اجنبی ڈرائیور کے ساتھ عورت کے تنہا کار میں سوار ہونے کے معاملے میں تسامی اور چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی حرام خلوت ہے، شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ سابق مفتی سعودی عرب رحمہ اللہ اپنے مجموع فتاویٰ (۵۲/۱۰) میں فرماتے ہیں:

”اب اس امر میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے کہ اجنبی عورت کا ڈرائیور کے ساتھ کسی محرم کی رفاقت کے بغیر تنہا کار میں سوار ہونا واضح طور پر ایک منکر عمل ہے، اس میں متعدد غیر معمولی خرابیاں ہیں خواہ ڈرائیور کے ساتھ کار میں بیٹھنے والی باحیا، شر میلی لڑکی ہو، یا پاکدا من بڑی عمر کی عورت ہو جو مردوں سے بالمشافہ بات چیت کرتی ہو، جو شخص اپنی محرم خواتین کے لئے اس امر کو پسند کرتا ہے وہ دینی اعتبار سے کمزور، مردانگی میں ناقص اور بے غیرت ہے، رسول اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

(مَا خَلَّا رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا)

”کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں ہوا مگر شیطان ان دونوں

کا تیسرا ہوتا ہے۔

عورت کا اجنبی مرد کے ساتھ کار میں سوار ہونا گھر وغیرہ میں اس کے ساتھ خلوت اختیار کرنے سے کہیں زیادہ خطرناک اور مضر ہے، کیونکہ وہ اس عورت کو شہر کے اندر یا شہر کے باہر اس کی رضامندی کے ساتھ یا بغیر رضامندی کے کہیں بھی لے جا سکتا ہے، اس سے جو خرابیاں لازم آئیں گی وہ مجرد خلوت سے لازم آنے والی خرابیوں سے کہیں زیادہ خطرناک اور عظیم ہو گی۔

جس شخص کے ذریعے خلوت کو ختم کیا جاسکتا ہے اس کا بڑا ہونا بھی ضروری ہے، لہذا کم سن بچے کا موجود ہونا کافی نہیں ہے۔ اور بعض خواتین کا یہ تصور کہ اگر انہوں نے اپنے ساتھ کسی بچے کو لے لیا تو خلوت ختم ہو گئی، غلط ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم (۹/۱۰۹) میں فرماتے ہیں: ”اگر کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر کسی تیسرے شخص کی موجودگی کے خلوت میں ہوتا ہے تو یہ باتفاق علماء حرام ہے، اسی طرح اگر ان دونوں کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو جس سے اس کی کم سنی کی وجہ سے شرم و حیانہ کی جاتی ہو تو اس کے ذریعے ممنوعہ خلوت زائل نہیں ہو سکتی۔“

(ج) بعض خواتین اور ان کے سرپرست ڈاکٹروں کے پاس بھی عورت کے تنہا جانے میں تساهل سے کام لیتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ عورت علاج

کی ضرورتمند ہوتی ہے، یہ بھی ایک نہایت منکر (نالپسندیدہ) اور حد درجہ خطرناک عمل ہے جس پر خاموشی اور سکوت اختیار کرنا یا اسے باقی رکھنا جائز نہیں ہے۔

شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ (۱۳/۱۰) میں لکھتے ہیں:

”بہر حال کسی اجنبی عورت کے ساتھ کسی مرد کا خلوت میں ہونا شرعاً حرام ہے، خواہ وہ معانج طبیب ہی کیوں نہ ہو۔ دلیل وہی حدیث ہے جس میں وارد ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تہائی میں نہیں ہوا مگر شیطان ان دونوں کا تیسرا ہوتا ہے۔

لہذا عورت کے ساتھ کسی شخص کی موجودگی ضروری ہے، خواہ اس کا شوہر ہو یا اس کا محروم مرد ہو، اگر یہ میسر نہ ہو تو اس کی کوئی قربی رشتہ دار کی عورت ہی ہو، اگر ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہ ہو اور بیماری سنگین ہو جس کو مَوْخَر کرنا ممکن نہ ہو تو کم از کم نرنس وغیرہ کی موجودگی ضروری ہے تاکہ خلوت ممنوعہ سے اجتناب ہو سکے۔

اسی طرح ڈاکٹر کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا جائز نہیں ہے خواہ اس کی کلاس فیلو ڈاکٹر یا نرنس ہی کیوں نہ ہو، اور ناپینا استاذ وغیرہ کا کسی طالبہ کے ساتھ خلوت میں ہونا بھی جائز اور درست نہیں ہے، اور نہ ہی جہاز میں کسی ایئر ہوسٹس کا اجنبی مرد کے ساتھ خلوت میں ہونا جائز ہے۔ جھوٹی

تہذیب کے نام پر نیز کفار کی اندھی تقليید اور شرعی احکام سے لاپرواہی کی بنا پر لوگ ان امور میں تساهل سے کام لیتے ہیں۔

گھر کے اندر کام کرنے والی خادمہ کے ساتھ آدمی کا خلوت میں ہونا یا گھر کی مالکن کا خادم کے ساتھ خلوت میں ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ خادموں کا مسئلہ ایک ایسا خطرناک اور سُنگین مسئلہ ہے جس سے عصر حاضر کے پیشتر لوگ دو چار ہیں، کیونکہ خواتین درس و تدریس اور گھر سے باہر مختلف کاموں میں مشغول ہیں۔

لہذا مومن مردوں اور عورتوں کو اس معاملہ میں متنبہ رہنے اور کافی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور غلط عادات اور بے رسم و رواج کی دوڑ میں مسابقت کی چندال ضرورت نہیں ہے۔

تتمہ:

کسی غیر محرم مرد سے عورت کا مصافحہ کرنا حرام ہے، شیخ عبدالعزیز بن باز صدر اعلیٰ برائے افتاء و دعوت و ارشاد (سعودی عرب) رحمہ اللہ اپنے مجموعہ فتاویٰ (۱۸۵/۱) مطبوعہ مؤسسة الدعوة الاسلامية (صحفیہ) میں فرماتے ہیں:
”غیر محرم عورتوں سے مطلقاً مصافحہ جائز نہیں ہے، خواہ نوجوان ہوں یا عمر رسیدہ بڑھی عورتیں، خواہ مصافحہ کرنے والا نوجوان ہو یا عمر رسیدہ بڑھا، کیونکہ

مصافحہ میں دونوں کے لئے فتنہ کا سامان موجود ہے، اور رسول اکرم ﷺ کے متعلق ثابت ہے:

(مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَدَ اُمَّةٍ قُطُّ، مَا كَانَ يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِالْكَلَامِ)

”آپ ﷺ کے دست مبارک سے کسی عورت کا ہاتھ کبھی بھی مس نہیں

ہوا، صرف کلام کے ذریعہ آپ خواتین سے بیعت کرتے تھے۔“

”اور مصافحہ کرتے وقت کپڑے وغیرہ کے ذریعہ دونوں ہاتھوں کے درمیان حد فاصل قائم کرنے یا نہ کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ممانعت کے دلائل میں عمومیت پائی جاتی ہے اور فتنہ کے سد باب کے لئے عدم تفریق ہی مناسب ہے۔“

شیخ محمد امین شفیقی طبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر اخسواء البیان (۲۰۳-۲۰۲) میں لکھتے ہیں: ” واضح ہو کہ کسی اجنبی مرد کے لئے کسی اجنبی عورت سے مصافحہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی مردانہ جسم کے کسی حصہ کا زنانہ جسم کے کسی حصے سے مس ہونا جائز ہے، اور اس کے مختلف دلائل ہیں:

پہلی دلیل: نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

«إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ» (الحدیث)۔

”بیشک میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔“

اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لِكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الأحزاب: ٢١)

”یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے۔“

لہذا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی اقتدا کرتے ہوئے خواتین سے مصافحہ نہ کریں، مذکورہ حدیث کی وضاحت سورہ حج میں احرام یا غیر احرام کی حالت میں مردوں کے لئے مطلق معصر (زعفرانی رنگ میں رنگے ہوئے) لباس کے استعمال پر گفتگو کے وقت کرچکے ہیں، اور سورہ احزاب کی آیت حجاب کی تفسیر کے دوران بھی اس پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے، بیعت کے وقت رسول اکرم ﷺ کا عورتوں سے مصافحہ نہ کرنا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ مرد عورتوں سے مصافحہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کے جسم کا کوئی حصہ عورت کے جسم کے کسی حصہ سے مس کر سکتا ہے، کیونکہ مس کی سب سے خفیف صورت مصافحہ ہے، جب بوقت ضرورت یعنی بیعت کے وقت آپ ﷺ مصافحہ سے گریز کرتے تھے تو اس سے یہی معلوم ہوا کہ مصافحہ جائز نہیں ہے اور آپ ﷺ کی مخالفت کسی کے لئے جائز نہیں، اس لئے کہ آپ اپنے افعال و اقوال اور تقریر کے ذریعہ اپنی امت کے لئے احکامات کی تشریع کرنے والے تھے۔

دوسری دلیل: پہلے ہم جو کہہ آئے ہیں کہ ایک خاتون مکمل طور سے عورت (یعنی ستر) ہوتی ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے، فتنہ میں واقع ہونے کے خوف سے اسے نگاہیں پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دوجسموں کے لمس میں بہ نسبت آنکھوں کی نظر کے شہوت کو بھڑکانے اور فتنہ و فساد کی جانب دعوت دینے کا زیادہ قوی داعیہ پایا جاتا ہے، ہر انصاف پسند آدمی اس حقیقت کو اچھی طرح جانتا بوجھتا ہے۔

تیسرا دلیل: اس زمانے میں جبکہ لوگوں کے دلوں میں خوف الٰہی باقی نہیں رہا، امانت و دیانت کا فتقراں ہوتا جا رہا ہے، شکوک و شبہات کی چیزوں سے اجتناب کا جذبہ ماند پڑتا جا رہا ہے، ایک اجنبی عورت سے لطف اندوز ہونے اور لذت حاصل کرنے کا یہ ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، بارہا ہم کو بتلایا جا چکا ہے کہ عوام میں سے بعض لوگ اپنی سالیوں (بیویوں کی بہنوں) کو منہ سے منہ ملا کر بوسے دیتے ہیں، اور اس کو سلام کا نام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے اپنی سالی کو سلام کیا ہے، ان کی مراد ہوتی ہے کہ اس کا بوسہ لیا ہے، جبکہ اس کی حرمت پر علماء کا اجماع ہے، لہذا حق بات جس میں شک و شبہ کی ادنیٰ گنجائش نہیں ہے یہ ہے کہ فتنوں اور شکوک و شبہات کی چیزوں اور ان کے اسباب و عوامل سے دوری اختیار کی جائے، اور فتنوں کے بڑے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی

ہے کہ ایک مرد اجنبی عورت کے جسم کے کسی حصہ کا لمس کرے اور چھوئے، جو حرام کاری کا ایک راستہ اور ذریعہ ہے، چنانچہ اس راستے کا بند کرنا بہت ضروری ہے۔ اخیر میں مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی اس وصیت کی یاد دہانی کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے:

﴿قُلْ لِلّمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ☆ وَقُلْ لِلّمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبُنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ إِخْرَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْرَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْرَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرُ أُولَئِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطَّفَلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيَنَّ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورة النور: ۳۰-۳۱)

”مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لئے زیادہ پاکیزگی ہے، لوگ جو کچھ کریں اللہ

تعالیٰ سب سے زیادہ خبردار ہے، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی
نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہرنہ
کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں
ڈالے رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہرنہ کریں، سوائے اپنے
خاوندوں کے، یا اپنے والد کے، یا اپنے خسر کے، یا اپنے لڑکوں کے، یا اپنے
خاوند کے لڑکوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھنوں کے، یا اپنے
بھانجوں کے، یا اپنے میل جوں کی عورتوں کے، یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر
چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے
پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کرنا
چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں! تم سب کے
سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔

وَاللَّهُمَّ لَهُ دِبَابُ الْعَالَمِينَ، وَصَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

وَآلِهِ وَصَدِيقِهِ -

فہرست مضمایں

صفحہ	مضمایں
۵	☆ مقدمہ
۸	فصل اول: عام مسائل و احکام
۸	☆ عورتوں کا مقام قبل از اسلام
۱۰	☆ اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ
	☆ دشمنان اسلام اور ان کے چیلے خواتین سے ان کی عزت
۱۲	ونا موس اور ان کے حقوق کو سلب کرنا چاہتے ہیں.....
۱۶	☆ خواتین کے لئے تعلیم و تعلم اور ملازمت کی اجازت
۱۸	فصل دوم:
۱۸	☆ خواتین کی جسمانی زینت و آرائش سے متعلق مسائل
۱۹	☆ سر کے بالوں کے موئڈنے کی حرمت
۲۳	☆ سر کے بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے باندھنے کا حکم
۲۵	☆ بالوں میں دوسرے بالوں کو جوڑ کر اضافہ کرنے اور وگ پہننے کا حکم
۲۶	☆ ابرو کے بالوں کو موئڈنے کا حکم
۲۸	☆ گھس کر یاریت کر دانتوں کے درمیان جھری بنانے کا حکم

۲۸

☆ گودنا گدوانے کا حکم

☆ مہندی لگانے، بالوں کو رنگنے اور سونے کے زیورات پہننے کا حکم

۳۲ فصل سوم: حیض، استحاضہ اور نفاس کے مسائل

۳۲ ☆ حیض کی تعریف۔

۳۳ ☆ کس عمر میں حیض کی ابتداء ہوتی ہے

☆ حیض کے احکام، ایام حیض میں عورت پر کون سی چیز حرام

۳۴ اور کون سی چیز مباح ہوتی ہے

۳۹ ☆ زرد یا مٹیا لے رنگ کے خون کا حکم

۴۰ ☆ حیض سے پاک ہونے کی علامت

۴۱ ☆ خون بند ہونے پر غسل کا واجوب اور غسل کا طریقہ

☆ کسی نماز کے وقت حیض سے پاکی حاصل کرنیوالی عورت

۴۲ پر کتنی نمازیں لازم ہوں گی؟

۴۳ ☆ استحاضہ کا خون، اس کی اقسام اور ہر ایک کا حکم

۴۹ ☆ مستحاضہ عورت پر پاک ہونے کی صورت میں کیا لازم ہے؟

۵۰ ☆ نفاس اور اس کے احکام

☆ نفاس والی عورت کا خون چالیس دن کے اندر بند

- ۵۳ ہونے کے بعد دوبارہ آجائے تو اس پر کیا لازم ہے؟
- ۵۴ ☆ حیض، استحاضہ اور نفاس کے خون میں فرق
- ۵۵ ☆ مانع حیض دواوں کا استعمال
- ۵۵ ☆ اسقاط حمل اور اس کا حکم
- ۶۰ فصل چہارم: لباس اور پردوے کے مسائل
- ۶۰ ☆ مسلم خاتون کا شرعی لباس اور اس کے اوصاف
- ۶۲ ☆ پرده: یعنی مفہوم، دلائل اور اس کے فوائد
- ۷۰ فصل پنجم:
- ۷۰ ☆ نماز سے متعلق عورتوں کے مخصوص مسائل
- ۸۸ فصل ششم:
- ۸۸ ☆ جنازے کے متعلق عورتوں کے مخصوص مسائل
- ۹۰ ☆ جنازے کے ساتھ خواتین کے چلنے اور قبرستان کی زیارت کا حکم
- ۹۲ ☆ نوحہ و گریہ وزاری کی حرمت اور اس پر وعدہ
- ۹۶ فصل ہفتم: روزے سے متعلق خواتین کے مخصوص مسائل
- ۹۶ ☆ ہر مسلمان مرد و عورت پر رمضان کے روزے کی فرضیت
- ۹۷ ☆ کن لوگوں پر روزہ رکھنا واجب ہے؟

- ☆ خواتین کے مخصوص شرعی اعذار جنکی وجہ سے ایام رمضان
98 میں وہ افطار کر سکتی ہیں
- ☆ مستحاضہ عورت پر روزہ واجب ہے
101
- ☆ حائضہ، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں پر روزہ کی
102 قضا واجب ہے، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کن حالات میں قضاء کے ساتھ مسکین کو کھانا دے گی؟
- ☆ خاوند کی اجازت یا بغیر اجازت کے عورت کے نفلی روزہ رکھنے کا حکم
103
- ☆ حائضہ دن کے وقت پاک ہونیکی صورت میں کیا کرے گی؟
104
- 105 فصل ہشتم: حج و عمرہ سے متعلق خواتین کے مخصوص مسائل
- ☆ امت اسلامیہ پر حج فرض کفایہ ہے
105
- ☆ حج کے مسائل جن میں خواتین مردوں سے منفرد ہوتی ہیں
106
- ☆ مرد کی جانب سے عورت کے حج بدل کا حکم
108
- ☆ احرام کے وقت عورت کو حیض آجائے تو کیا کرے
109
- ☆ احرام کے وقت عورت پر کیا لازم ہے؟
110
- ☆ حالت احرام میں عورت کیا پہنے گی؟
115
- ☆ خواتین کے تلبیہ پکارنے کا حکم اور اس کی کیفیت
118

- ☆ حائضہ ارکان حج میں کس کو ادا کرے گی اور کس کو موخر کرے گی ۱۲۰
- ☆ طواف سے پہلے سعی کا حکم ۱۲۱
- ☆ حائضہ کی سعی کب درست ہو گی؟ ۱۲۳
- ☆ نصف شب کے بعد خواتین کے مزدلفہ سے نکلنے اور
کنکری مارنے کا حکم ۱۲۶
- ☆ حج یا عمرہ میں عورت اپنے بالوں کی کس طرح قصر کر گی ۱۲۷
- ☆ عورت کو کب حلال اول حاصل ہو گا اور حلال اول کے
بعد اس پر کیا واجب ہے؟ ۱۲۹
- ☆ حائضہ سے طواف و داع ساقط ہے ۱۲۹
- ☆ خواتین کے لئے مسجد نبوی اور رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک
کی زیارت کا حکم ۱۳۱
- فصل نہم: ازدواجی زندگی کے خاص مسائل ۱۳۳
- ☆ نکاح (شادی بیاہ) کی مشروعیت اور اس کی حکمت ۱۳۳
- ☆ عورت کا گھر کے اندر رہ کر ذمہ داری ادا کرنا اور اس کے فوائد ۱۳۷
- ☆ عورت کا گھر کے باہر کام کرنا اور اس کے عظیم نقصانات ۱۳۸
- ☆ شادی کے لئے عورت سے اس کی رائے طلب کرنا ۱۳۱

- ۱۳۶ ☆ عورت کی شادی کے لئے ولی کی شرط اور اس کی حکمت
- ۱۳۷ ☆ شادی کے موقع پر عورتوں کا دف بجانا اور اسکے شرائط
- ۱۳۹ ☆ عورت پر خاوند کی اطاعت واجب ہے
- ۱۵۶ ☆ عورت کے لئے خاوند کی مخالفت کب جائز ہے؟
- ۱۵۹ ☆ عدت والی خواتین اور ان کی فتنمیں
- ۱۶۱ ☆ عدت گزارنے والی خواتین پر کیا حرام ہے؟
فصل دہم: خواتین کی عزت و ناموس اور عفت و شرافت
- ۱۶۹ کو تحفظ فراہم کرنے والے احکام و مسائل
☆ عورت پر نگاہوں کو پست رکھنا
- ۱۶۹ اور شرمگاہوں کی حفاظت واجب ہے
- ۱۷۳ ☆ گاناسنے پر خواتین کو سخت تنبیہ
- ۱۷۵ ☆ محرم کی معیت کے بغیر خواتین کے سفر کی حرمت
- ۱۷۹ ☆ نامحرم کے ساتھ عورت کا تہائی میں ہونا حرام ہے
☆ خاوند کے نامحرم رشته دار، ڈرائیور اور ڈاکٹر کے ساتھ
- ۱۸۱ عورت کا تہائی میں ہونا حرام ہے
- ۱۸۶ ☆ عورت کا غیر محرم سے مصافحہ کرنا حرام ہے

